

# فقہی، فکری و اصلاحی مکالمات

تقریظ

خادم کتاب و سنت، حضرت مولانا علام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم  
رئیس جامعہ اسلامیہ شاععۃ العلوم اکل کوا، نند ربار

کلماتِ تحسین

حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی  
ناظم تعلیمات و معتمد جامعہ

تصنیف و تالیف

مفہی محمد حعفری رحمانی

صدر دار الافتاء جامعہ اکل کوا

[www.besturdubooks.net](http://www.besturdubooks.net)

ناشر جامعہ اسلامیہ شاععۃ العلوم اکل کوا، نند ربار، مہس راٹھر ۵۲۵۲۱

فقهی، فکری و اصلاحی

# مُکَالَمَاتُ

تقریظ :

خادم کتاب و سنت، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم  
رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، نذر بار

کلماتِ تحسین :

حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی

ناظرم تعلیمات و معتمد جامعہ

تصنیف و تالیف :

مفتقی محمد جعفر ملی رحمانی

صدردار الافتاء جامعہ اکل کوا

ناشر :

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، نذر بار، مہارا شتر، ۳۱۵ ۳۲۵

## تقطیع کار

جملہ حقوق محفوظ ہیں!

نام کتاب	: فقہی، فکری و اصلاحی مکالمات
مصنف	: حضرت مولانا مفتی محمد جعفر صاحب تی رحمائی
کمپیوٹر کتابت و ترتیب:	: عبدالمتین اشاععی کاظمی گانوی
طبع اول	: ۱۳۳۸ھ / ۲۰۱۷ء
صفحات	: ۲۱۸
قیمت	:
باہتمام	: ابو حمزہ و سلطانوی
ناشر	: جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا

## ملنے کا پتہ

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا ضلع نذر بار مہارا شستر

Phone & Fax: 02567,252556

E-mail [jafarmilly@gmail.com](mailto:jafarmilly@gmail.com)

[fatawaakkalkuwa@gmail.com](mailto:fatawaakkalkuwa@gmail.com)

<http://jamiyaakkalkuwa.com/fatawa/>

# فہرست عنوانوں

صفحہ	فہرست عنوانوں	نمبر شمار
۳	مفتی محمد جعفر ملی رحمانی..... ابتدائیہ:	
۷	تقریظ:.....رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی	
۸	کلمات تحسین:.....حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی	
۱۱	مُکالَمَه:.....اصلوں حفظاً صحت و مال اور ان کی خلاف ورزی	۱
۲۳	مُکالَمَه:.....عقدِ شرکت میں ہونے والا نقصان	۲
۳۷	مُکالَمَه:.....دینی و عصری علوم	۳
۵۱	مُکالَمَه:.....بندوں کے حقوق	۴
۸۱	مُکالَمَه:.....مشترکہ کاروبار میں جھگڑا، اور اُس کا حل!	۵
۹۰	مُکالَمَه:.....کیسے حاصل ہو زندگی کا سکون؟!	۶
۱۰۳	مُکالَمَه:.....سود کی تباہ کاریاں	۷
۱۲۷	مُکالَمَه: سماج و معاشرے میں پنپتے جرائم اور ان کا انسداد (قسط اول)	۸
۱۵۹	مُکالَمَه: سماج و معاشرے میں پنپتے جرائم اور ان کا انسداد (قسط دوم)	۹
۱۷۵	مُکالَمَه:.....ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت	۱۰
۱۹۷	مُکالَمَه:.....شخصی و مذہبی آزادی اور معاملات کی صفائی	۱۱
* * * * *	* * * * *	* * * * *



## ابتدائیہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد !  
قال الله تبارك وتعالى :

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله الرحمن الرحيم !

(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) - (سودة المائدۃ: ۶۷)

قال رسول الله ﷺ : ”ألا! فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عى من سامع“ - (صحیح البخاری: ص/ ۳۰۷، کتاب الحج، ط: دار احیاء التراث بیروت)

محترم قارئین کرام! قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو عام سے عام تر کریں، اور ہمہ وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ کسی بھی طرح یہ علم ہر کس و ناکس کے پاس پہنچ جائے، اور اس کی زندگی تعلیماتِ اسلام کے مطابق بن جائے، اس لیے کہ دینِ اسلام کا مقصود ”إِخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ“ (یعنی پوری دنیا کو فساد و بگاڑ سے صاف کرنا) ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے، جب کہ فساد کی جگہ صلاح لے لے، بدی کی جگہ نیکی لے لے، شر کی جگہ خیر لے لے، بدعاں و رسومات کی جگہ سُنّن لے لیں، خاندانی و قبائلی روایتوں کی جگہ روایاتِ مصطفیٰ لے لیں، اور یہ اس وقت ہو گا جب حضراتِ علمائے کرام تبلیغِ دین اور اس کی ترویج کے لیے اپنے دلوں میں نبوی گڑھن و ترڑپ کو پیدا کریں گے، اور اسے اپنی زندگی کا مشن قرار دیں گے، کیوں کہ یہ کام عارضی و قتنی نہیں بلکہ دائمی و ابدی ہے، عبوری و سطحی نہیں بلکہ گہری فکر و منصوبہ بندی کا متقاضی ہے، اس کے بغیر طبقہ علماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد:- ”ألا! فليبلغ الشاهد الغائب“ - سے ثابت فرض سے سبک دوں نہیں ہو سکتا۔

الحمد لله! حضراتِ علمائے کرام نے اپنے اس فرض کی انجام دہی کے لیے مختلف طریقے اپنا

رکھے ہیں، کوئی درس و تدریس میں مشغول ہے، تو کوئی وعظ و تقریر میں منہمک، کوئی تصنیف و تالیف میں لگا ہے، تو کوئی ارشاد و سلوک میں مصروف۔ الغرض! ہر عالمِ دین اپنے اس فرض سے عہدہ برا ہونے کے لیے حتی الْمَقْدُور کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اس کے ثمراتِ حسنہ سے مالا مال فرمائے۔ آمین!

تبليغِ دین جب مقصود ہے، تو اس کے لیے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے جائز و مباح وسائل ہو سکتے ہیں، انہیں اختیار کرنا، نہ صرف جائز بلکہ وہ بھی مقصود ہوں گے، کیوں کہ فقہ کا قاعدہ ہے: ”إِنَّ الْوَسِيْلَةَ أَوِ الدَّرِيْعَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ الْمَقْصَدُ وَاجِبًا“ - نیز: ”حُكْمُ الْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ“ - اسی زاویہ فکر کو لے کر، مفکرِ قوم و ملت، خادمِ کتاب و سنت، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم نے، اس حقیر کو اس بات کا مکلف کیا کہ ہر سال، سالانہ اجلاس کے موقع پر آپ (دارالافتاء) کی طرف سے ایک ایسا علمی، فقہی، فکری اور اصلاحی مکالمہ آنا چاہیے، جو معاشرے میں موجود برائیوں کو اجاگر کرتا ہو، اور شرعی اصولوں کی روشنی میں ان کا حل بھی پیش کیا گیا ہو، اس لیے کہ مکالموں کے ذریعے، دینی مضامین و مہایات بڑی آسانی سے لوگوں تک پہنچائی جاسکتی ہیں، کہ مکالموں میں ان کی دلچسپی پائی جاتی ہے۔

آپ دامت برکاتہم کے اس امرِ عالی کے بعد سے اب تک تقریباً گیارہ مکالمے پیش کیے جا چکے ہیں، ہر طبقے کے لوگوں سے انہیں خوب پذیرائی حاصل ہوئی، اور خود حضرت والا دامت برکاتہم نے نہ صرف ان کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ بہت زیادہ حوصلہ افزائیں سے بھی

نواز۔ فجز اہم اللہ خیر الجزاء!

جامعہ کا تعلیمی مشن چوں کہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، اور ہر بڑے مرکز میں تعلیمی سال کے اختتام پر بڑے اجلاس ہوتے ہیں، جن سے اطراف و اکناف کے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، حضرت دامت برکاتہم کی یہ فکر ہے کہ ان جلسوں میں جہاں بڑے علمائے کرام کے وعظ و نصیحتیں ہوں، وہیں پرمغز و دلچسپ، علمی اور اصلاحی مکالمے بھی پیش کیے جائیں، تاکہ دینی و اصلاحی باتیں باسانی عوامِ الناس کے دلوں تک پہنچائی جاسکیں، اور ان جلسوں کی افادیت دو بالا ہو جائے۔

آپ کی اسی فکر کے احترام میں نظماء و فضلاء نے مرکز - "دارالافتاء" سے رجوع کر کے، اُس کے پیش کردہ مکالموں کی نقول حاصل کرتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں کے جلسوں میں انہیں پیش کرتے ہیں، اس لیے ناظم تعلیمات و معتمد جامعہ، محترم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی زید مجده وفضلہ نے فرمایا کہ بہتر ہے یہ تمام مکالمات کتابی شکل میں آجائیں، تاکہ طالبین کے لیے اُن کا حصول آسان ہو، اور اُن کی افادیت بھی عام ہو جائے۔ آپ محترم کے اسی ارشاد کی تعمیل میں عزیزم مفتی عبدالمتین سلمہ نے ان تمام مکالمات کو جمع فرمایا، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں کتابی شکل دی، فزاد لا اللہ علماً و شرفاً!

اس کتاب میں گیارہ مکالمے بعنوان:

(۱) اصول حفظانِ صحبت و مال کی خلاف ورزی، (۲) نقصان در عقد شرکت، (۳) علوم دینیہ و عصریہ، (۴) حقوق العباد، (۵) مشترکہ کاروبار کا جھگڑا اور اُس کا حل، (۶) کیسے حاصل ہو زندگی کا سکون؟ (۷) سود کی تباہ کاریاں، (۸) معاشرے میں پنچتے جرائم اور اُن کا انسداد، [قطع اول]، (۹) معاشرے میں پنچتے جرائم اور اُن کا انسداد، [قطع دوم]، (۱۰) ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت، (۱۱) شخصی و مذہبی آزادی اور معاملات کی صفائی۔

..... موجود ہیں، جن کی افادیت و اہمیت، ان کے عنوانیں ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔

اللہ پاک سے سے دعا گو ہوں کہ وہ اس حقیر خدمت دین کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور آخرت میں اسے اپنی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهٖ  
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ! وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!

///

محمد جعفر ملی در حمانی

۲۰/ صفر المظفر ۱۴۳۸ھ

# تقریظ

(حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، رئیس جامعہ اکل کوا)

حامدًا ومصلیاً و مسلماً ! مدارسِ دینیہ کے سالانہ جلسے ایک اصلاحی پروگرام کے تحت منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس میں حاضرین کے سامنے مدارس کی کارکردگی پیش کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، الحمد للہ! ہندوستان کے مدارس اور ان کے کارہائے نمایاں سے سمجھی لوگ واقف ہیں، مدارس میں ایک ادارہ، ایک مدرسہ، ایک جامعہ؛ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا بھی ہے، جس کی بنیاد سن ۱۴۰۰ھ میں ایک چھوٹی شکل میں رکھی گئی تھی، اور عام مدارس کے جلسوں کی طرح اس کا بھی سالانہ جلسہ ہوتا آیا ہے، جامعہ میں شعبۃ علیت کے بعد دارالافتاء کا قیام سن ۱۴۲۸ھ میں عمل میں آیا، سالانہ جلسے میں جہاں اور پروگرام ہوتے ہیں، وہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ عوام کے سامنے ایسے مکالمے اور محاجے کے پیش کیے جائیں، جو حالاتِ حاضرہ پر منطبق ہوتے ہوں، اور سامعین کو ایک علمی، فکری اور اصلاحی مواد بھی فراہم کرتے ہیں، ایسے مکالموں کے لیے میں نے دارالافتاء کے مسئول و ذمہ دار، عزیزم مفتی محمد جعفر صاحب سے درخواست کی کہ آپ دارالافتاء کے طلبہ کو ایسے مکالمے دیں، جس میں وہ عوام کو حالاتِ حاضرہ پر دینی معلومات پیش کریں، تاکہ آنے والا طبقہ سالانہ جلسے سے ایک مضبوط و مفید اور اصلاحی و فکری پیغام لے کر جائے، الحمد للہ! مفتی صاحب نے دارالافتاء کے پہلے سال سے ہی یہ سلسلہ آج تک جاری رکھا، اور عوام و خواص سمجھی نے ان مکالمات و محاجمات کو نہ صرف داد دی، بلکہ ان کی بہت زیادہ تحسیں و پذیرائی بھی کی۔ آج الحمد للہ! یہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ جہاں مکالمے ہیں وہیں ایک دینی، علمی، فقہی، فکری اور اصلاحی دستاویز بھی ہیں، مدارس کے لیے خصوصاً، اور سمجھی کے لیے عموماً ایک علمی سرمایہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور عوام و خواص سب کے لیے اس کو نافع بنائے۔ ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد!

# كلمات تحسین

(حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب حفظہ اللہ در عاہ: ناظم تعلیمات و معتمد جامعہ اکل کوا)

زبان و قلم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دو نعمتیں جب اللہ تعالیٰ کسی عالم، فاضل و مفتی کو عطا فرمادے، اور خلوص سے بھی نواز دے، تو نورِ علیٰ نور، اور سونے پر سہاگہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، آپ قارئین کی خدمت میں اس وقت جو تحریری کاوش، تحقیق اور علمی لبادہ سے مزین کتاب ہے، وہ میرے استاذ محترم رفیق تدریس حضرت مولانا مفتی محمد جعفر صاحب مدظلہ العالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت نے واقعۃ مفتی صاحب کو علمی ذوق سے نوازا ہے، احقر بچپن ہی سے آپ سے واقف ہی نہیں بلکہ والہانہ تعلق رکھتا ہے، ابتدائی نحو و صرف کی متعدد کتابیں، اس کے بعد درجاتِ عالیہ میں فقه اور اصول فقه کی بیشتر کتابیں مفتی صاحب سے کسب فیض کر چکا ہے، آپ کا درس بہت ہی موثر ہوتا تھا، سمجھانے کا انداز بڑا اور طبیعت میں ظرافت اس پر مستزد اور جبھی آپ کا درس طلبہ میں بہت مقبول ہے، اللہ حضرت کو اجر عظیم عطا فرمائے، کہ آپ جیسے اساتذہ کی محنت، توجہ، دعا و اور عنایتوں سے ٹوٹی پھوٹی کچھ تھوڑی سی صلاحیت بنی، اور کچھ لکھنے پڑھنے کا ذوق بنا۔ میرے استاذ ہونے کے ناطے میں نے بہت معدرت کی، مگر مفتی صاحب نے اصرار کیا، تو حکم کی تعمیل میں چند سطیریں لکھنے پر مجبور ہوں۔

مفتی صاحب سے بندے کو شاگردی کے ساتھ ساتھ بے تکلفا نہ تعلقات بھی ہیں، تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ”محقق و مدلل“، آپ کا نشان امتیاز اور سیمبول ہو گیا، اس لیے کہ ماشاء اللہ آپ کی قلمی کاوشیں تحقیق کے بلند معیار کی حامل ہوتی ہیں، آپ نے جامعہ کے دارالافتاء کی ذمہ داری شروع سے ہی سنبھالی اور اس کا حق ادا کر دیا، ”مسائل مهمہ“ نے علمی حلقة میں خاص طور پر افتاء اور فقہ کے شاگقین کے لیے گویا عمدہ مواد فراہم کر دیا، اور قلیل مدت میں اس کے متعدد ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، ایک صاحب فارسی میں ترجمہ کر رہے ہیں، جامعہ کے ایک آسامی طالب علم نے فون پر اطلاع دی کہ میں نے اس کا

آسامی زبان میں ترجمہ کر لیا ہے، اسی طرح ”محقق و مدلل جدید مسائل“ کی دو جلدیں اور ”کرسی پر نماز“ کا مسئلہ، ”ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت“ کا مسئلہ ”قربانی کے مسائل“، غرضیکہ مذکورہ تمام کتابیں دلائل سے آراستہ و پیراستہ ہیں، اور علاما و طلبہ میں بڑی مقبول ہیں، آپ کی لکھی گئی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ مسائل فقهیہ پرحتی المقدور قرآنی آیات، اس کے بعد احادیث نبویہ اور پھر تائید کے لیے فقهاء کی عبارتوں سے استدلال کی بھرپور کوشش کا فرمائی ہوتی ہے۔

مفتش صاحب کے علمی ذوق کے پروان چڑھنے میں فقیہہ الہند حضرت مولانا قاضی مجاهد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ کی صحبت اور خاص توجہات کا بھی اہم روں ہے، آپ ہی نے مفتی صاحب کو والد صاحب کے مطلبے پر جامعہ میں خدمتِ تدریس کے لیے ارسال کیا تھا۔

مفتش صاحب ہر سال جامعہ کے سالانہ جلسے کے لیے والد محترم کے ایما پر ”مکالمات“ مرتب فرماتے ہیں، اور یہ مکالمات خالص علمی اسلوب و پیرائے میں اور بالکل عدالتی طرز پر ہوتے ہیں، جن میں علمی اسلوب کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے ایسے مسائل سے تعریض کیا جاتا ہے، جس میں امت کا ابتلاء ہے، امت کو ان مسائل سے واقف کر اکر، اس کے سامنے اسلامی شریعت کی روشنی میں اس کا صحیح حل پیش کیا جاتا ہے۔ والد محترم (رئیس جامعہ) بھی بڑی دلچسپی سے انہیں سنتے ہیں، اور جلسے سے قبل اہتمام کے ساتھ بار بار دریافت فرماتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے مکالمہ تیار کیا یا نہیں؟ اور جب جلسے میں پیش کیا جاتا ہے، تو لوگ بہت دلچسپی سے ہمہ تن گوش ہو کر اس کو سنتے ہیں، آج انہی ”فقہی، فکری و اصلاحی مکالمات“ کو کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً ان کی طباعت امت کے لیے ایک قیمتی تخفیہ سے کم نہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، امت کو آپ کے علم سے خوب نفع پہنچائے، اور آپ کو مزید زور قلم عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے، اور امت کو اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

حدیفہ وستانوی

۱۴۳۸ھ، الاول ربیع

﴿وَيُكَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْذَّبَائِثَ﴾

(القرآن)

﴿كُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لِلّٰهِ كُلُّ هُنَاءٍ﴾

﴿بِإِرْبَهِ الْمُسْرِفِينَ﴾ (القرآن)

(۱)

مُکالَمہ بابت

اُصولِ حفظ ان صحت و مال

اور ان کی خلاف ورزی

کردار:

ترجمان:.....

پیش کار:.....

پولیس اہل کار:.....

مجرم:.....

وکیل استغاثہ:.....

وکیل دفاع:.....

حج صاحب:.....

## مقدمہ

قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے افراد..... ایک ایسے شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، جس کا یہ جرم ہو کہ وہ مقاماتِ عامہ بیڑی، سگریٹ، گلکھا، وغیرہ استعمال کر رہا تھا، حکومتی اہل کاروں نے اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف، مقاصدِ شرعیہ دفعہ ۲/؛ بابت حفاظتِ نفس، دفعہ ۳/؛ بابت حفاظتِ مال، اور دفعہ ۵/؛ بابت حفاظتِ عقل، کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا۔

عدالت نے مقدمہ کے سماعت کی، تاریخ ۵ مرجب المرجب طے کی، جس میں ملزم اپنے وکیلِ دفاع کے ساتھ، ۵ مرتبہ تاریخ کو حاضر ہو گا۔

(پیش کار متعینہ تاریخ پر ملزم کو اس کے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش کرتا ہے۔)

**پیش کار (آواز لگاتا ہے): ملزم نمبر ایک حاضر ہو!!**

**جج (وکیلِ دفاع سے):**

آپ کے موکل کے خلاف دفعہ ۲، اور دفعہ ۳/۵ کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، کیا آپ ان کے دفاع میں کچھ کہنا چاہیں گے؟

**وکیلِ دفاع: معزز نجح صاحب!**

میرے موکل کے خلاف، مقدمہ میں جس چیز کو جرم قرار دیا گیا ہے، وہ حقیقتہ جرم ہے ہی نہیں، کیوں کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ کی حرمت پر کوئی دلیلِ شرعی موجود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا استعمال جائز اور مباح ہے، اور اب میں اس کے جواز و اباحت پر اپنی دلائل پیش کر رہا ہوں، امید کہ بغور سماعت فرمائیں گے،

تا کہ طالبِ انصاف کو انصاف مل جائے۔

**دلیل (۱):** ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ . ”وَهُوَ (خدا) ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب۔“ (سورہ البقرہ: ۲۹)

**دلیل (۲):** نیز خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا آتَوْ حِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ . ”آپ کہہ دیجئے: مجھ پر جو لوگ آتی ہے، اس میں تو میں (اور) کچھ نہیں حرام پاتا، کسی کھانے والے کے لیے جو اسے کھائے۔“ (سورہ الأنعام: ۱۲۵)

**دلیل (۳):** اسی طرح یہ فرمان: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ . ”اور اپنی زبان کے جھوٹ بنایں سے یہ مت کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام۔“ (سورہ النحل: ۱۱۶)

**دلیل (۴):** اور اس کا یہ فرمان: ﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ . ”آپ کہئے: اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، کس نے حرام کر دیا ہے، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو؟“ (سورہ الأعراف: ۲۲)

یہ تمام آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ بیڑی، سگریٹ، گلکھا اور تمباکو وغیرہ حرام و منوع نہیں ہیں، اب میں احادیث مبارکہ سے بیڑی، سگریٹ اور گلکھا وغیرہ کے جواز پر دلائل کا آغاز کر رہا ہوں:

**دلیل (۱):** فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ“۔ ”حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، اور جس کے متعلق کتاب اللہ خاموش ہے، وہ معاف ہے۔“ (سنن الکبری للبیہقی: ۲۱/۱۰، رقم: ۱۹۷۲۳)

**دلیل (۲):** حضرت ابو تعلیمہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت ہے:

”إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيغُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَنَهِيَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ - رُخْصَةً لَكُمْ، لَيْسَ بِنِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا“۔ ” بلاشبہ اللہ نے چند فرائض مقرر کیے، تم ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ حدود مقرر کی ہیں، پس تم ان سے عدول نہ کرو، اور کچھ اشیاء سے منع کیا ہے، تم ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق سکوت اختیار فرمایا ہے، تمہارے لیے (ان چیزوں میں) رخصت ہے، اس کو کوئی نسیان نہیں ہے، لہذا تم اس کے بارے میں بحث و تفییش میں نہ پڑو۔“ (سنن الکبری للبیہقی: ۲۱/۱۰، رقم: ۱۹۷۲۵)

ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور گلکھا وغیرہ کا استعمال جائز اور مباح ہے۔

علاوہ از یہ عبارات فہمیہ میں بھی اس کی حرمت پر کوئی صراحة نہیں ہے:

**دلیل (۱):** جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: عبد الغنی النابسی رحمہ اللہ

فرماتے ہیں: ”فَالَّذِي يَنْبَغِي لِلنَّاسِ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يَتَعَاطَاهُ أَوْ لَا ، كَهَذَا الْعَبْدِ الْضَّعِيفِ وَجَمِيعٌ مَنْ فِي بَيْتِهِ أَنْ يَقُولَ : هُوَ مُبَاحٌ ، لِكِنْ رَأَيَتْهُ تَسْتَكْرِهَا الْطَّبَاعُ ، فَهُوَ مَكْرُوفٌ طَبَاعًا ، لَا شَرْعًا“ . ”جس کسی شخص سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے، خواہ اسے استعمال کرتا ہو یا نہیں، جیسے یہ بندہ ضعیف اور اس کے جملہ اہل خانہ، تو اس کو مباح کہنا چاہیے، لیکن اس کی بُوطبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ طبعاً مکروہ ہے، نہ شرعاً۔“ (رد المحتار: ۲۵۹/۵، ط: سعید کراچی)

**دلیل (۲):** اسی طرح ”الْحَدِيقَةُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ میں عبد الغنی النابسی - رحمہ اللہ - (بحوالہ تفسیر خازن) فرماتے ہیں:

”ذَكَرُوا فِي مَعْنَى الطَّبَاعَاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّبَاعَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴿١﴾ . أَقُوَّا لَا ..... الْقَوْلُ الثَّالِثُ : ..... الْآيَةُ عَلَى الْعُمُومِ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ كُلُّ مَا يُسْتَلَدُ وَيُشَتَّهَى مِنْ سَائِرِ الْمَطْعُومَاتِ إِلَّا مَا وَرَدَ نَصُّ بِتَحْرِيمِهِ ، كَذَا قَالَهُ الْخَازِنُ ..... وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ وَأَضْحَى عَلَى إِبَاحَةٍ ؛ نَحْوِ الْقَهْوَةِ وَالنَّتْنِ مِمَّا تُسْتَلَدُهُ بَعْضُ الْطَّبَاعِ وَتَجِدُ لَهُ نَفْعًا وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْمُسْكَرَاتِ ، وَلَيْسَ فِي حُرْمَتِهِ نَصُّ آيَةٍ ، وَلَا حَدِيثٍ ، وَلَا قِيَاسٍ عَلَى ثَابِتٍ بِأَحَدِهِمَا“ .

”آیت مذکورہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ

آیت میں عموم ہے، اس کے تحت وہ تمام اشیائے مطعومات داخل ہیں، جو بطورِ لذت یا رغبت کے طور پر کھائی جاتی ہیں، نیز قہوہ اور تن (بد بودار درخت) کی اباحت و جواز پر یہ آیت صریح دلالت کرتی ہے، جو طبیعت کے لیے باعثِ لذت اور حصولِ منفعت کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ نشہ آور اشیاء میں سے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حرمت پر کوئی آیتِ قرآنی دلالت کرتی ہے، اور نہ حدیثِ نبوی، اور نہ قواعدِ شرعیہ اس کے مقاضی ہیں۔“

(ترجمہ الجنان للعلامہ اللکنوی: ص/۳۵، ملحوظہ مع رسائل اللکنوی: ج/۲)

اسی طرح علامہ ابن حبیم مصری -رحمہ اللہ- ”الأشباه والناظائر“ میں فرماتے ہیں:

”أَأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدْلُلَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ“.

”چیزوں میں اصلِ اباحت ہے، جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔“

نیز بیڑی، سگریٹ، تمبا کو اور گلکھا وغیرہ کا استعمال مضرِ صحت بھی تو نہیں ہے، کہ مملکت کے قوانینِ حفظانِ صحت کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔

اب میں اپنی دلائل کو سمیٹتے ہوئے بطورِ خلاصہ دلائل یہ عرض کرتا ہوں، کہ جب بیڑی، سگریٹ، تمبا کو اور گلکھا وغیرہ کی حرمت پر، نہ نصِ قطعی موجود ہے، اور نہ فقہا کے اقوال، اور نہ کسی قاعدةٰ شرعیہ سے اس کی حرمت کو ثابت کیا جاسکتا ہے، تو میرے موکل کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے، وہ سراسر ظلم و زیادتی پر بنی ہے، اس لیے اُسے بری قرار دے کر، عدالتِ عالیہ..... حکومت کے ان اہل کاروں پر قانونِ اسلام کی دفعہ ۵۰۰۰: بابت حرمت عرض (ہتکِ عزت) کے تحت (5000) روپیے کا تاوان واجب کریں۔

**حج: وکیل استغاثہ (سرکاوی وکیل)** سے مخاطب ہو کر:

آپ نے وکیل دفاع کی دلائل سنیں، کیا آپ کو اس سلسلے میں کچھ نقد و جرح کرنی ہے؟

**وکیل استغاثہ:** جی ہاں!

اولاً تو مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ محترم وکیل دفاع، بجائے اس کے کہ اپنے موکل کی حرکتوں پر ندامت کا اظہار کرتے، اور اس کی طرف سے عدالت عالیہ سے معافی و درگزر کے طلب گار ہوتے، اُس کی حرکتوں کو جائز و مباح قرار دینے کے لیے، مختلف حیلے اور بہانے تلاش کیے، اور دلائل شرعیہ کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی، بے جا جسارت و جرأت کی ہے، جو بذاتِ خود ایک جرم ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا:

”بریں عقل و دانست بباید گریست“

اسی طرح ایک مقولے کا مفہوم ہے:

”حیله گناہ بدتر از گناہ است“

**محترم حج صاحب!**

وکیل دفاع نے اپنی دلائل پیش کر کے، نہ صرف اپنے موکل کا ناقص دفاع کیا، بلکہ عدالت عالیہ کو بھی گمراہ کرنا چاہا۔

وکیل موصوف کا یہ دعویٰ کہ ان چیزوں کی حرمت پر کوئی آیت قرآنی موجود نہیں، بے بنیاد ہے، کیوں کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ کا استعمال کرنا اکل

خبیث، اسرافِ مال، ہلاکت نفس، اور ایذائے مسلمین پر مشتمل ہے، جس کی حرمت پر نصوصِ قرآنیہ دال ہیں۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے:

**اکل خبیث :** ﴿وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث﴾ . ”اور وہ حرام کرتا ہے انسان پر گندی چیزیں۔“ (سورۃ الاعراف: ۱۵۷)

**اسرافِ مال :** ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِّرِيًّا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيْءَ طِينَ﴾ . ”اور مال کو فضولیات میں نہ اڑاؤ، بے شک فضولیات میں

اُڑادینے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں۔“ (سورۃ بنی اسرائیل: ۲۶/۲۶) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ﴾ . ”کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف سے کام نہ لو، بے شک وہ (اللہ) مسروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔“ (سورۃ الأعراف: ۳۱)

**ہلاکت نفس:** ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ . ”اور تم اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالیے۔“ (سورۃ البقرہ: ۱۹۵) اسی طرح وکیل دفاع کا یہ کہنا، کہ احادیث میں ان چیزوں کے متعلق ممانعت نہیں، بالکل غلط ہے۔

**ایذائے مسلمین :** ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ . ”اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والوں کو، اور ایمان والیوں کو، بدلوں اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار (اپنے

اوپر) لیتے ہیں۔“ (سورة الأحزاب: ۵۸)

اسی طرح سے وکیل دفاع کا یہ کہنا..... کہ احادیث میں ان چیزوں کے متعلق کوئی ممانعت نہیں، بالکل غلط ہے، کیوں کہ یہ چیزیں اسرافِ مال، ہلاکتِ نفس اور ایذاۓ مسلم کا ذریعہ و سبب ہیں، جس کی احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بطورِ نمونہ چند احادیث پیشِ خدمت ہیں:

**(۱) اسرافِ مال:** آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِضَاعَةَ الْمَالِ“ . ”بِلَا شَهَدَ اللَّهُ تَعَالَى نَمَرْتُ أَنْ أَضَاعَ مَالًا كَوْرَامًا كَيْا هَيْ“ (صحیح البخاری: ۳۲۲)

**(۲) ہلاکتِ نفس:** آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ أَكَلَ الطَّيْنَ فَكَانَ مَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ“ . ”جس نے مٹی کھائی گویا اس نے خود کشی پر مدد کی۔“ (السنن الکبریٰ للبیهقی: ۲۰/۱۰)

قالَ فِي الْجَوْهِرِ : ”بَلْ هُوَ دَالٌ عَلَى التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ مُحَرَّمَةٌ ، فَكَذَا هَذَا“ . ”بِلَكَه آیت کریمہ مٹی کھانے کی حرمت پر دال ہے، کیوں کہ قتلِ نفس پر اعانت کرنا بھی حرام ہے، ایسے ہی مٹی کا حکم ہے۔“

**(۳) ایذاۓ مسلم:** آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتَنِيَةِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُونُ“ . متفق علیہ . ”جو شخص اس بدبو دار درخت سے کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ ملائکہ کو ان

چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔“

(مشکوٰۃ شریف: ص/ ۶۸، ۶۹)

نیز وکیلِ موصوف کا یہ دعویٰ کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ کی حرمت پر اقوالِ فقہہ موجود نہیں ہیں بلکہ بر جہالت ہے، کیوں کہ ”الدر المتنقی“ میں ہے: ”وَكَذَا النَّتْنُ الَّذِي شَاعَ فِي زَمَانِنَا بَعْدَ نَهْيٍ وَلِيُّ الْأَمْرِ . (نَصَرَ اللَّهُ تَعَالَى)۔“ ایسے ہی تمباکو جو ہمارے زمانے میں کثیر الاستعمال ہے، حرام ہے، حاکِم وقت (اللہ اس کی مدد کرے) کے اس پر پابندی لگانے کے بعد۔“

(الدر المتنقی علی هامش مجمع الأنہر: ۲۵۱ / ۳، الدر المختا مع الشامية: ۱۰ / ۳۱)

اسی طرح وکیلِ دفاع کا یہ دعویٰ، کہ بیڑی، سگریٹ وغیرہ کی حرمت کو کسی قاعدةٰ شرعیہ سے ثابت نہیں کیا جاسکتا بھی اُن کی نادانی پر شاہد ہے، کیوں کہ مذکورہ تمام آیاتِ قرآنیہ، احادیثِ مبارکہ اور عباراتِ فقہیہ ان چیزوں کے استعمال کے غیر مباح ہونے پر دال ہیں۔

نیز مذکورہ اشیاء اگرچہ مطلقاً حرام تو نہیں، مگر حرام یعنی نشہ تک پہنچنے کا سبب و ذریعہ بنتی ہیں، اور فقهہ کا قاعدةٰ مسلمہ ہے کہ:

”جو چیز حرام اور منوع تک پہنچنے کا ذریعہ و سبب بنے، وہ بھی حرام ہوتی ہے۔“

”إِنَّ الْوَسِيلَةَ أَوِ الدَّرِيْعَةَ تَكُونُ مُحَرَّمَةً إِذَا كَانَ الْمَقْصُدُ مُحَرَّمًا وَتَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ الْمَقْصُدُ وَاجِبًا“ . (المقاصد الشرعية: ص/ ۳۶)



## عدالت فیصلہ

**حج** (حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر):

وکلائے طرفین کی دلائل کی سماعت کے بعد، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم (نمبر ۱) مقاصدِ شرعیہ؛ دفعہ ۲/؛ بابت حفظانِ نفس و صحت، اور دفعہ چار ۲/؛ بابت حفظانِ مال، کی صریح خلاف ورزی کا مرتكب ہوا، اس لیے اُس پر تین ہزار (۳۰۰۰) روپے نقد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور نہاد کرنے کی صورت میں پندرہ یوم، قیدِ بامشقت کا حکم دیا جاتا ہے۔..... اور صدر بارقونصل ایشوشین سپریم کورٹ کو ہدایت کرتی ہے، کہ اس طرح کے وکلاء- جو دلائلِ شرعیہ کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے، جرام پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پیشہ وکالت سے منسلک ہیں، ان کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے، کیوں کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا﴾.

”جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، اُس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی بُری سفارش لائے گا، اُس پر اس میں سے بار رہے گا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔“ (سورۃ النساء: ۸۵)

(عدالت برخاست ہوتی ہے)



وَإِنْ كَثُرَّا مِنْ الظَّالِمِينَ لِيَغْنِي  
 بِعِصْمَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (القرآن)

(۲)

## مُکالَمہ بابت

# عقد شرکت میں ہونے والا نقصان

**کردار:**

حامد.....

خالد.....

ترجمان/پیش کار:

کالر:

گشتی پولیس:

گشتی پولیس اہل کار:

وکیل استغاثہ:

وکیل دفاع:

حج:

## مقدمہ

(خالد اور حامد آپس میں دوست ہیں، ایک روز دونوں کی ملاقات ہوئی)

**حامد** (خالد سے): کیا بات ہے؟

آپ کچھ اُبجھے اُبجھے سے، حیران و پریشان اور بے چین دکھائی دے رہے ہیں،  
ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی یہ پریشانی ہم سے دیکھنے نہیں جاتی!

**خالد** (حامد سے): ہاں یار! آپ نے صحیح بھانپ لیا،

دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ رقم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی  
اچھا کاروبار کے ترقی کی منزل کو چھولوں، مگر کیا کروں! کوئی ایمان دار، وفا شعار،  
سرماہی دار، شریک اور پارٹنر (Partner) نہیں مل رہا ہے، جس کی شرکت کے  
ساتھ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ کیا ہی اچھا ہے گا اگر تم میرا ساتھ دو، اور ہم دونوں  
آپس میں ایک کمپنی قائم کریں! بتاؤ! تمہارا کیا خیال ہے، بہتر ہے گا؟؟؟

**حامد** (خالد سے): دیکھو خالد! دوستی کے ناطے میں تمہارا ساتھ دینے  
کے لیے تو پوری طرح تیار ہوں، اور میرے پاس کچھ سرمایہ بھی ہے، لیکن آج کل  
زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی پر اعتماد کیا جائے، خصوصاً مالی معاملات میں،  
اور کاروبار کی حالت بھی تو ایسی ہو چکی ہے کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا، تو راتوں  
رات کروڑ پتی بن گئے، ورنہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، اور صحیح کاسٹہ گدائی لے کر در بدر  
کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔

**خالد** (حامد سے): ایسی ماہوسی کے ساتھ تو کوئی انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا،

ترقی کے لیے حوصلوں اور ہمتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور زندگی میں اس طرح کے تلخ تجربات سے ہم کنار ہونا زندہ دلوں کا خاص وصف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی نفع و نقصان، میٹھے اور کڑوے، اچھے اور بے سے ہی تعبیر ہے، اور مسلمان کا تو اس بات پر ایمان ہے، کہ تقدیر یا چھمی ہو یا بری اللہ ہی کی جانب سے ہے۔

”وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌ وَحُلْوٌ وَمُرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى“ .

اگر اس مختصر سی زندگی میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس طرح کے شیطانی وسوسوں، اور بے سے خیالات کو تین طلاق دے کر، ہمت و حوصلے کا لبادہ اوڑھنا ضروری ہے۔

**حامد:** خالد آپ کی ان باتوں سے میری نا امیدی - امید میں، بزدلی ہمت میں تبدیل ہو گئی، اور اب میں اپنے اندر کچھ کرگزرنے کا حوصلہ پاتا ہوں، اس لیے آئیے! ہم دونوں پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ دستِ شرکت بڑھا کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، کہ دس لاکھ میرے، اور دس لاکھ آپ کے ملا کر، ہم دونوں اس کاروبار کو شروع کریں گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میں نقصان میں شریک نہیں رہوں گا۔ (پھر خالد اور حامد دونوں آپس میں ایک فارم (Farm) پر دستخط کرتے ہیں۔)

**حامد (خالد سے):** ہمارے اس معاہدے پر اللہ گواہ ہے۔

﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾

## (ایک مدت کے بعد)

**ترجمان:** حامد اور خالد کا کار و بار چند ہی دنوں میں چل نکلا، دونوں خوب نفع کماتے رہے، نہایت ہی حوصلہ افزائنا اور پرمسرت ایام گزر رہے تھے کہ اچانک ایک زور کا دھپکا آگا، ہوا یہ کہ ایک دن سونامی زلزلہ آیا، اور تمام کار و بار (فیکٹری سمیت) زمین دوز ہو گیا، اور امیدوں اور آرزوں کی فلک بوس عمارتیں اس کی تباہ کاری سے بچ نہ سکیں، اب دونوں میں تنازع ہوا، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حامد اور خالد آپس میں الجھ گئے۔

(گشتنی پولیس چوکی کے رسیور کی گھنٹی بجتی ہے، ٹرنگ ٹرنگ ..... ٹرنگ ٹرنگ)  
 گشتنی پولیس ٹیم میں سے ایک (رسیور اٹھا کر): ہیلو! کون؟  
**کالر:** جی! میں ”سٹی چوک“ سے بول رہا ہوں، یہاں پر دو افراد کے مابین زبردست جنگ چھڑی ہے، فوراً پولیس ٹیم روانہ کریں! ..... ورنہ!  
 ..... پولیس گشتنی ٹیم (موقعہ واردات پر پہنچ کر) دونوں کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے۔

## عدالت میں

(پولیس اہل کار خالد اور حامد دونوں کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرتے ہوئے)

**پولیس اہل کار** (پیش کار صاحب سے مخاطب ہو کر):  
 ان دونوں افراد کو ہم نے اپنے گشت (Petroling) کے دوران ایک

دوسرے سے دست و گریبان ہوتے دیکھا، تو انہیں اٹھا لے آئے، اب آپ خود لڑائی کی اصل وجہ معلوم کر کے، ان کے خلاف، نقضِ امن کا مقدمہ دائر کریں!

**پیش کار** (دونوں مجرموں سے مخاطب ہو کر):

کیوں میاں! تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟

## بیان فریق اول (حامد)

(حامد اپنا بیان دیتا ہے)

**حامد** : ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنے دوست خالد سے ملاقات کی، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ ال جھا ال جھا سا حیران و پریشان ہے، میرے پوچھنے پر اُس نے مجھے بتایا کہ، میرے پاس کچھ رقم ہے میں اُسے کاروبار میں لگا کر کچھ بننا چاہتا ہوں، لیکن جو کاروبار میں سوچ رہا ہوں اس میں کسی پارٹنر کی ضرورت ہے، کیوں کہ اتنے بڑے کاروبار کے لیے جس قدر سرمایہ درکار ہے، میں تن تھا اُس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اُس کے بعد اس نے مجھے اپنے اس متوقع کاروبار میں یہ سبز باغ دکھا کر شرکت کی دعوت دی، کہ یہ کاروبار سو فیصد نفع بخش ہے، ہم بہت جلد اتنی ترقی کر لیں گے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ کلمات ہوں گے:

”پانچوں انگلیاں گھی میں“

(He Lives on the fat of the land)

اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم، ”آنبانی برادران، اور ٹاٹا و برلا“ سے دو قدم آگے، پوری دنیا کے امیر ترین انسان کھلائیں گے، اور پھر دنیا

ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور ہم گنگنا میں گے:

”دَوْلَةُ إِلَّا زَيْرَسْ“

(The world is your,s)

اور ہم یہ محسوس کریں گے کہ:

”ہم دنیا کے بادشاہ ہیں،“

(We are king,s of the world)

میں اس کی باتوں میں آگیا، اور میں نے اس کی طرف دستِ شرکت، اس شرط کے ساتھ بڑھا دیا، کہ میں کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع میں پچاس فی صد (50%) کا مالک رہوں گا، لیکن اگر خدا نخواستہ، خدا نخواستہ! کاروبار نقصان و خسارے کی زد میں آجائے، تو میں اس نقصان میں رتنی برابر کا شریک نہیں رہوں گا، اور اس نے میری اس شرط کو منظور بھی کر لیا، جس پر یہ اسٹامپ پیپر زشانہ ہیں، ہمارا کاروبار الحمد للہ اچھا چلتا رہا، اور امید سے زیادہ منافع حاصل ہوتے رہیں، ہم نے اس کی تقسیم کے لیے ایک تاریخ طے کی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس تاریخ کے آنے سے پہلے ہی ہمارا یہ کاروبار، پوری طرح سے تباہ و بر باد ہو گیا، اب میں اُس سے نفع نہیں، اپنی اصل رقم کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اصل رقم کی واپسی تو درکنار، بلکہ تم کو ہونے والے چار لاکھ نقصان کے تلافی کے لیے دولاکھ روپے مجھے دینے ہوں گے۔

(فریقِ اول کا بیان ختم ہوتا ہے)

**پیش کار فریق ثانی (خالد) سے مخاطب ہو کر:**

آپ اس سلسلے میں اپنا بیان دیجئے!

## بیان فریق دوم (خالد)

(خالد اپنا بیان دیتا ہے)

**خالد:** یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اس طرح کا معاہدہ طے پایا تھا، اور میں نے حامد کی شرط بھی منظور کر لی تھی، کہ آپ محض نفع میں حصہ دار اور شریک ہوں گے، نقصان میں نہیں، لیکن انسان ظلم و ارجوہوں ہے، آئندہ کیا ہوگا اُس سے وہ بے خبر ہے، زمینی و آسمانی آفتؤں اور بلاوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، ہمارے کاروبار کا تباہ و بر باد ہونا بھی اسی سلسلے کی ایک ناخواہی و ناپسندیدہ کڑی ہے، اسے گردشِ ایام کہیے، یا قسمت کا لکھا، کہ آج میں نہ صرف کنگال و مفلس ہوں، بلکہ چار لاکھ کا مقر وض، اب میرا یہ دوست مجھ سے اپنی اصل رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، جب کہ اخلاق و شریعت میرے حق میں ہیں، کیوں کہ عقد شرکت میں جو بھی نقصان ہوتا ہے، ہر شریک اس میں اپنے حصہ مال کے تناسب سے نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا اپنی اصل رقم کا مطالبہ بالکل جائز نہیں، چہ جائے کہ اُس پر مجھ سے دست و گریبیاں ہونا۔

**پیش کار دونوں (حامد اور خالد) سے مخاطب ہو کر:**

ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بیان ریکارڈ ہو چکا، اور مقدمہ کی سماعت کے لیے ۱۵ ربیعہ ۱۴۲۹ھ کی تاریخ طے کی جاتی ہے، متعینہ تاریخ پر آپ دونوں

اپنے وکیلوں کے ہمراہ عدالت عالیہ میں پیش ہوں!

## زمانہ فترت

(۵ رجب الموجب ۱۴۲۹ھ کو دونوں فریق اپنے وکیلوں کے ہمراہ، عدالت میں موجود ہیں۔)

**پیش کار (آواز لگاتا ہے):**

مقدمہ نمبر..... کے ملزم حامد اور خالد کمرہ عدالت میں حاضر ہوں!!

**جج وکیل دفاع (حامد کے وکیل) سے مخاطب ہو کر:**

جناب وکیل صاحب! آپ کے موکل - حامد کے خلاف یہ مقدمہ درج ہے کہ اُس نے خالد کو زد و کوب کیا اور دفعہ دو کی خلاف ورزی کا مرتكب ہوا، اس سلسلے میں آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی بیان صفائی دینا چاہتے ہیں؟

**وکیل دفاع: جی ہاں، محترم نجح صاحب!**

میرے موکل نے اپنے پسینے کی کمائی مبلغ ۰۱۰ لاکھ روپے نقد، اپنے بیوی بچوں کے منہ سے نکال کر، خالد کو ایک کار و بار کرنے کے لیے دیئے، اور اس میں یہ شرط لگائی کہ میں نقصان کی صورت میں ضامن نہیں رہوں گا، خالد نے اسے منظور بھی کیا، جس پر یہ اسٹامپ پیپر زشاہدِ عدل ہیں، خالد کا کار و بار قدرتی آفات کا شکار ہو کرتا ہو بر باد ہو گیا، لیکن اس سے حامد کو کوئی سروکار نہیں، کیوں کہ حامد نے پہلے ہی یہ پیش گوئی کی تھی، کہ ہو سکتا ہے کار و بار تباہ و بر باد ہو جائے، اور ہماری اصل رقم بھی چلی جائے، مگر خالد نے بہلا پھنسلا کر، اسے عقد شرکت کی

دعوت دی تھی، لہذا حامد کا اپنی اصل رقم کا مطالبہ کرنا، ازروئے قانونِ اسلامی بالکل جائز و درست ہے، کیوں کہ دستور اساسی، فرمانِ الٰہی یہ ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُؤْلًا﴾

”اور عہد کی پابندی رکھو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔“ (سورہ بنی اسرائیل: ۳۷)

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ“ .

”مسلمانوں پر اپنی شرائط کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔“

(سنن ترمذی: ۱/۲۵۱، سنن ابن داود: ۵۰۶، سنن یہبی: ۶/۷۹)

اس لیے میں عدالتِ عالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ صاحبِ حق کو اس کا حق دلا کر ”قاضٍ فِي الْجَنَّةِ“ کا مصدق بینیں!

**حج وکیل استغاثہ** (خالد کے وکیل) سے مخاطب ہو کر:

آپ نے وکیلِ دفاع کا بیان اور اس کی دلائل سنیں، کیا آپ کو اس بیان اور دلائل پر کچھ نقد و جرح کرنی ہے؟

**وکیل استغاثہ:** جی ہاں! منصفِ عالی مقام!

اتنی بات تو میرا موکل خالد بھی تسلیم کرتا ہے، کہ اس نے حامد کی یہ شرط منظور کی تھی، کہ وہ اس کا رو بار میں ہونے والے نقصان کا ضامن نہیں ہو گا، لیکن اس طرح کی شرط لگانا اور اسے قبول کرنا دونوں شرعاً غلط ہیں، کیوں کہ فقہائے کرام اس طرح کی شرط لگانے کو باطل قرار دیتے ہیں، یعنی اگر یہ شرط لگائی جائے، تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اور ہر شرکیک اپنے حصہ مال کے تناسب سے نقصان کا

ذمہ دار قرار پاتا ہے، کیوں کہ یہ شرکت، شرکت عنان ہے، جس میں ہر شریک اپنے حصہ مال کے تناسب سے نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”الرِّبُّحُ عَلَىٰ مَا شَرَطَ وَالْوَضِيْعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالَيْنِ“ . ”نفع شرط کے مطابق تقسیم ہوگا اور نقصان میں دونوں اپنے اپنے مال کی بقدر شریک ہوں گے۔“ (اعلاء السنن: ۲۶/۱۳)

اسی طرح ۲۶۲ھ کے مشہور محقق، فقیہ و قانون داں، شیخ الاسلام، قاضی القضاۃ ابو الحسن علی ابن حسین ابن محمد السُّعْدِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَمَّا تَفْضِيلُ الْوَضِيْعَةِ فَلَا يَجُوزُ مُتَّفَقاً .“

(عقد شرکت میں ہر شریک اپنے حصہ مال کے تناسب سے برابر کا شریک ہوگا، اس میں کمی بیشی کرنا بااتفاق فقهاء، بالکل جائز نہیں ہے۔)

(النتف في الفتاوی: ص/ ۳۲۳)

عصر حاضر کے ایک زبردست فقیہ، شیخ عبدالحمید محمود طہماز، اپنی انمول و انوکھی تالیف ”الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید“ میں رقم طراز ہیں:

”وَالْوَضِيْعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالِ يَعْنِي الْخُسْرَانَ فِي الشُّرْكَةِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقَدْرِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُمَا مُتَسَاوِيَا فِي الْقَدْرِ فَالْخُسْرَانُ يَعْنِهِمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَثْلَاثًا فَالْوَضِيْعَةُ أَثْلَاثًا ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالنَّخْعَانِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .“

”تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر شریک اپنے حصہ مال کے تناسب سے

نقصان کا ذمہ دار ہوگا، اگر دونوں کا سرمایہ آدھا آدھا تھا، تو دونوں کا نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا، اور اگر سرمایہ تین حصوں پر منقسم تھا، تو نقصان بھی تین حصوں پر منقسم ہوگا، نیز امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام شعبی، جابر ابن زید، اور امام نجفی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔“ (۲۸/۵)

اسی طرح فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے: ”الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ“ - ”تاوان نفع کے مطابق ہوتا ہے۔“ (درالحکام شرح مجلۃ الاحکام: ۱/۹۰، رقم المادة: ۸۷)

رہاوکیل موصوف کا اپنی دلیل میں آیت قرآنی ﴿وَأُفُواٰ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُؤْلًا﴾ کو پیش کرنا، تو وہ درست نہیں، کیوں کہ یہ حق کی روایت ہے:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ”إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِدِ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ“ .

(السنن الکبری للبیهقی : ۱۰/ ۳۳۵، رقم : ۲۰۸۳۸)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ شَرِعيٌّ بَلْ هُوَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ بَعْدَ أَنْ كَانَ نِيَّةُ الْوَفَاءِ . (حاشیہ جلالین : ۱/ ۹۲، المائدة)

جب آدمی اپنے مسلم بھائی سے وعدہ کرے، اور اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی بھی ہو، پھر کسی وجہ سے وہ اس وعدے کو پورانہ کر سکے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، حاشیہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ یہ حدیث دال ہے اس بات پر، کہ وفاۓ عہد ( وعدہ پورا کرنا) واجب شرعی نہیں، بلکہ مکارم اخلاق میں سے ہے، بشرطیکہ اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو۔

اسی طرح وکیل موصوف کا اپنی دلیل میں حدیث: ”**الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ**“ کو پیش کرنا، یہ سراسر علمی خیانت یا قصورِ مطالعہ پر منی ہے، کیوں کہ آپ نے صرف حدیث کا ایک جز پیش فرمایا، اور جزء ثانی سے صرف نظر کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ انہیں شرطوں کا پاس و لحاظ ضروری ہوتا ہے، جو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال، اور حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ قرار دے، جب کہ عقد شرکت میں یہ شرط لگانا، کہ میں نقصان میں شریک نہیں رہوں گا، سود کے دروازے کو کھولتا ہے، اور وہ اس طرح کہ شریعت کسی بھی شخص کو نفع کا حق دار اُس وقت قرار دیتی ہے، جب وہ رسک لیتا ہو (یعنی نقصان میں بھی شریک ہوتا ہو)، اور یہاں رسک لینا نہیں پایا گیا، اب جو بھی نفع حاصل ہوگا، وہ محض اپنی اصل رقم قرض پر دینے کی وجہ سے ہوگا، اور قرض پر نفع کمانا شرعاً حرام ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”**كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا**۔“

(فیض القدیر: ۲۸/۵، حدیث: ۶۳۳۶، قواعد الفقه: ص/ ۱۰۲)

اس لیے یہ شرط، شرعاً باطل ٹھہری، اور اس کا پاس و لحاظ کرنا مقاصدِ شرع کے خلاف ہونے کی وجہ سے خود باطل ہے۔

ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ نکلا کہ حامد اس کا رو بار میں ہونے والے نقصان میں برابر کا شریک ہے، اور اس کا خالد سے اپنے اصل سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ شرعاً بالکل جائز نہیں، اور اس نے خالد کو جوز دو کوب کیا، اور اس کی ہتک عزت کی، اس پر دفعہ دو؛ بابت حفاظتِ نفس و عزت کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے۔

## عدالت فیصلہ

**جج:** وکلائے طرفین کی دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی، کہ حامد کا خالد سے اپنے اصل سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ شرعاً جائز نہیں، اور حامد کا رو بار میں ہونے والے چار لاکھ روپے نقصان میں سے، دولاکھ خالد کو ادا کر دیں، اور خالد کو زد و کوب کر کے اُسے جو جسمانی تکلیف پہنچائی، اور اُس کی عزت کو پا مال کیا، اُس پر حامد - خالد کو، بطور جرمانہ - مبلغ پانچ ہزار (۵۰۰۰) روپیہ ادا کر دیں!

**پیش کار:**

(عدالت برخاست ہوتی ہے)



يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَيِّنَ إِنَّمَا مِنْكُمْ  
 وَالْبَيِّنَ مَا وَتَوْمَا الْعِلْمَ حَرَجٌ  
 (القرآن)

(۳)

## مُکالَمَه بِابْتِ

# دِيني و عصرى علوم

**کردار:**

(۱) ترجمان ..... عمرار

(۲) دانشور ..... زید

(۳) دیندار ..... بکر

(۴) فضولی ..... عمرو

(۵) مفتی شهر ..... یاسر

## تمہید

**عمار (ترجمان):**

”زید“، ایک دانشور ہے جو اپنی قوم میں دنیوی تعلیم کے فروغ کے لیے رات دن کوشش میں لگا ہوا ہے، مسلمانوں کی تعلیمی حالت پر مشتمل سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ کر وہ انتہائی فکرمند ہو جاتا ہے، اسی درمیان اس کی ملاقات ”بکر“ نامی شخص سے ہوتی ہے، جو دنیوی علوم، ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور قوم کا دنیوی علوم کو حاصل کرنا اسے ذرا اچھا نہیں لگتا، دونوں آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، دونوں کی فکر و نظر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں الجھ جاتے ہیں، اس درمیان ”عمرو“ نامی شخص کا وہاں سے گزر رہوتا ہے، جوان دونوں کو اپنے نظری و فکری اختلاف کو دور کرنے کے لیے مفتی شہر کی خدمت پہنچنے کا مشورہ دیتا ہے، بعدہ یہ سب لوگ حضرت مفتی ”یاسر“ صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب دونوں کے افکار و نظریات کو سننے کے بعد صحیح اسلامی نقطے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔

**ملاحظہ ہو ”مکالمہ بر علوم دینیہ و عصریہ“!**

## مقدمہ

**زید:** السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**بکر:** علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**بکر:** کیا دانش و رصاہب آج کچھ فکروں اور ابحوثوں میں الجھے الجھے سے اور ٹینشن میں نظر آرہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟

**زید** (دانش ور): آج میں نے اخبار میں سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھی، جس سے معلوم ہوا کہ عالمی اور ملکی سطح پر ناخواندگی کی شرح مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے، اس رپورٹ نے مجھے فکر و غم میں بنتلا کر دیا، مسلمانوں کی یہ حالت زارِ دیکھ کر مجھے کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیوں کہ مسلمان معاشی، اقتصادی، سیاسی، سائنسی، ٹیکنالوجی اور دیگر عصری علوم، غرضیکہ ہرمیدان میں پیچھے ہیں۔

**بکر:** ارے دانش و رصاہب! یہ فکر و غم چھوڑو، سچر کمیٹی کی رپورٹ دنیوی تعلیم سے متعلق ہے، دینی تعلیم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔

الحمد للہ! ثم الحمد للہ! مسلم قوم دینی تعلیم میں بہت آگے ہے، ہر سال علماء، حفاظ، قراء اور مفتیان کرام کی اچھی خاصی تعداد مدارسِ اسلامیہ سے فارغ ہو کر قوم و ملت کی خدمت میں مصروف ہو رہی ہے، جو اس قوم کے تابناک مستقبل کی غماز ہے۔

**زید:** بکر، جس تعلیم کی تم بات کر رہے ہو وہ ہمارے روشن مستقبل کی ضامن نہیں! بلکہ ہمارا مستقبل اس وقت روشن ہو گا، جب اس قوم میں ماہر ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، جس اور سائنسٹ پیدا ہوں گے، صرف علماء و فضلا تیار

کرنے سے بات بننے والی نہیں ہے۔

اور بکر، آپ تو اس کا مشاہدہ کرتی رہے ہیں کہ ایک طرف مولوی لوگ ہیں جو کنوں کے مینڈ کی طرح ہیں کہ صرف نورانی قاعدہ اور نحو و صرف لے کر بیٹھ گئے اور بس، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ سے فراغت کے بعد صرف دو تین ہزار تنخواہ پر اکتفاء کرنا پڑتا ہے، مجھے تو تم مولویوں کی حالت پر ترس آتا ہے، کہ تمہارے بچے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر آوے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے گھر (اقامتی درسگاہ) میں آیا ہے، اور جب تمہارے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا اسکوں کی چھٹی ہوئی ہے، اور تنخواہ دیکھو تو صرف چند ہزار روپے۔ اتنی کم تنخواہ پر تم مولوی لوگ کیسے گزارہ کرتے ہو؟

اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس دنیا میں دیگر قوموں کے شانہ بشانہ ترقی کی منزلیں طے کرنی ہیں، اور ایک زندہ قوم کی حیثیت سے عزت و شرافت کی زندگی گزارنی ہے، تو اس قوم کو دنیوی علوم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، سائنس، طب ٹیکنالوجی اور دیگر علومِ عصر یہ میں مہارت پیدا کرنا ہوگی، تاکہ قوم میں اچھے سے اچھے سے ڈاکٹر انجینئر، آفیسر، سائنسٹ اور نج پیدا ہوں، اور قوم دیگر اقوام کی طرح خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی بسرا کر سکے، اور اس قوم کے بارے میں مثال دی جاوے:

”مسلم قوم کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں!“

ورنہ ذلت و رسوانی، جہالت و پس ماندگی، ہی ہمارا مقدر ہوگی، اور ہمیں اپنے کیسے پر آنسو

بہانے ہوں گے، اور ہمارا نہ کوئی پرسانِ حال ہوگا، اور نہ کوئی اشک سوئی کرنے والا۔

**بکر:** دلنش و رصاہب! آپ کی تمام باتیں بکواس ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ:  
”ہمارا مستقبل اس وقت روشن ہوگا، جب اس قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، حج اور سائنسٹ پیدا ہوں گے۔“

میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم جس دور کو اسلام کا تابناک اور روشن دور کہتے ہیں یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تابعین کا دور، کیا اس دور میں آج کل کی طرح ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، حج اور سائنسٹ موجود تھے؟..... نہیں؛..... اس کے باوجود ہمارا وہ دور، روشن و تابناک تھا۔

اسی طرح آپ کا یہ کہنا کہ:..... ”مولوی لوگ کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں جن کا ذہن محدود، محض چند ہزار تن خواہ پر گزران کرتے ہیں،“..... درست نہیں ہے، کیوں کہ تم لوگ ظاہری ٹیپ ٹاپ، ٹائی بائی اور شوت بوٹ میں رہتے ہوں، مگر حقیقتہ ﴿خُشْبٌ مُّسَنَّدٌ﴾ یعنی قسم‌ها قسم کے ٹینشن اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہوں، تمہاری تن خواہ دس ہزار مگر تم دو بچوں کی کفالت بھی صحیح طور پر نہیں کر پاتے، اور تحدید نسل کا نسخہ آزمای کراپنے آپ کو بنگاہ شرع مجرم قرار دیتے ہوں، جب کہ مولوی لوگوں کی تن خواہ محض دو ہزار ہوتی ہے، مگر وہ بحمد اللہ دس بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کرتے ہیں، ان کی قلت میں برکت ہوتی ہے، اور تمہاری کثرت بے برکتی کاشکار!

الحمد لله على ذلك!

کسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے : ۔

ظاہر کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو

کیا چیز جی رہی ہے؟ کیا چیز مرہی ہے؟!

نیز آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا وجود، ہماری عزت و ترقی، ہمارا مستقبل، سب علوم عصریہ سے وابستہ ہیں، جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ: ”اللہ ہی کسی قوم کو باقی رکھتا ہے اور وہی فنا کے گھاٹ اُتارتا ہے: ﴿هُوَ يُحْيِيٰ وَيُمِيتُ﴾ ..... عزت و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ۔ (سورہ آل عمران: ۲۶)

”آپ کہیے! اے سارے ملکوں کے مالک! تو جسے چاہے حکومت دیدے، اور تو جس سے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، اور تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرمائے :

تمہاری قوم کی تو بنیاد ہی دین وایمان پر!!!!!!

تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر!!!!!!

تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزاداں پر!!!!!!

نہ قوت پر، نہ کثرت پر، نہ شوکت پر، نہ سامان پر!

**بکر:** اس لیے آپ اپنے فکر و خیال کی اصلاح کر کے، سچے دل سے رب غفور کے سامنے توبہ کر لیجئے۔

**زید** (دانش ور): بھائی بکر، مجھے آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے، کیوں کہ آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ علومِ عصریہ کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، اور یہ علوم بالکل لغو و بے کار ہیں، اور قوم کا اس میدان میں آگے بڑھنا آپ کو انتہائی ناگوار ہے۔

(عمر و - فضولی - راستے سے گزر رہا تھا کہ زید اور بکر کو بحث و مباحثہ میں الجھا ہوا پایا تو نجح میں ٹپک پڑا اور کہنے لگا):

کیا بات ہے، تم دونوں کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں؟

**عمرو** (دونوں نے اپنی اپنی روداد سنائی، تو عمر و کہنے لگا):

ٹھیک ہے! اگر آپ اپنے اس فکری و نظری اختلاف کا شرعی حل چاہتے ہیں، تو چلنے، اس شہر میں ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں، وہ بڑے ذہین، فلین، حاضر جواب، علوم شرعیہ سے واقف اور نباض وقت ہیں، وہ آپ دونوں کے اس اختلاف کا شرعی حل پیش فرمائے، آپ کو مطمئن کر دیں گے۔

(زید اور بکر یک زبان ہو کر):

ٹھیک ہے عمرو! ہم سب مفتی صاحب کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔

**عمرو:** تو چلو پھر دیکھ سی بات کی؟

عمر و زید اور بکر: (تینوں مفتی صاحب کے پاس پہنچ کر):

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**مفتی صاحب:** علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

کہیے جناب! کیسے آنا ہوا؟ آپ لوگوں کے مزاج تو بغیر ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے کہ آپ لوگ ہانپتے کا نپتے، یہاں پہنچے ہوں؟!

(عمر و فضولی - زید اور بکر کی پوری داستان مفتی صاحب کے سامنے بیان کرتا ہے۔)

**عمر و:** حضرت مفتی صاحب!

زید کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کا روشن مستقبل، وجود و بقاء، عزت و سرخروئی اور فلاح و ترقی، عصری علوم کے حاصل کرنے اور اس میں سبقت لیجانے پر منحصر ہے، اور دینی علوم میں اس کی ضمانت نہیں ہے۔..... جب کہ بکر زید کے اس نقطہ نظر کے بالکل مخالف ہے، اس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو عصری علوم کی قطعاً ضرورت نہیں، کیوں کہ مسلمانوں کا روشن مستقبل، وجود و بقاء، عزت و سرخروئی اور فلاح و ترقی، ایمان، علم شرعی، عمل صالح، تقوی و طہارت اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے، نہ کہ دنیوی علوم پر، ..... بلکہ دنیوی علوم پر "علم" کا اطلاق ہی غلط ہے۔

اب آپ شریعت کی روشنی میں ان دونوں کے اس اختلافِ نظر و فکر کو دور فرمائ کر ہم سب کو ممنون و مشکور فرمائیں!

## مفتشی صاحب : محترم زید صاحب!

بکر صاحب نے جو باتیں کہیں، وہ بالکل بجا ہیں، اس لیے کہ ہمارے مستقبل کا روشن و تابناک ہونا، عصری علوم پر نہیں، بلکہ ایمان و عمل صالح پر موقوف ہے، جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ .

”اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئے ہوتے اور پرہیز گاری اختیار کی ہوتی تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔“ (سورہ آعراف: ۹۶) اسی طرح ہماری عزت و سرخروئی، رفت و بلندری، فنا اور بقاء، ایمان کامل کے ساتھ مشروط ہے، ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَإِنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ .

”تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔“ (سورہ آل عمران: ۱۳۹)

﴿وَتَلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾

”اور یہ بستیاں وہ ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین کیا تھا۔“ (سورہ کہف: ۵۹)

اسی طرح زید کا یہ کہنا کہ ”علم“ سے، علوم دینیہ ہی مراد ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے، کیوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ - ”فتح الباری: ۱/۱۸۶“ پر، ارشادِ خداوندی:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ذَرَجَتِ﴾ کی تفسیر کرنے ہوئے فرماتے ہیں:

”ایمان و علم کے سبب رفع درجات کا مطلب - کثرتِ ثواب ہے، جس کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور بلندی درجات؛ درجاتِ معنوی و حسّی دونوں کو شامل ہے، یعنی اللہ رب العزت اہل ایمان و علم کو دنیا میں بھی اونچے مقام و مرتبہ، اور مقبولیت عامہ سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی جنت میں اس کا مقام بلند وبالا ہوگا، ..... اور ”علم“ سے مراد ”علم شرعی“ ہی ہے، جس کا مدار علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ پر ہے۔“

ما في ”فتح الباري لابن حجر العسقلاني“ : الْمَرَادُ بِالْعِلْمِ ؛ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ : الَّذِي يُفَيِّدُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ ؛ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ . وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النَّقَائِصِ ، وَمَدَارُ ذلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ . (۱۸۷/۱)

ما في ”أحكام القرآن للتهاونی“ : يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَالَمَ وَالْطَّالِبَ لِلْحَقِّ . (۲۳/۵)

علم سے علم شرعی کے مراد ہونے پر، ”صحیح مسلم“ اور ”سنن ابن ماجہ“ کی یہ دونوں حدیثیں بھی شاہد ہیں:

۱- ..... ”مَنِ التَّمَسَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ“ . ”جو شخص کسی ایسے راستہ کا متلاشی ہو، جس میں وہ علم کو تلاش کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔“

۲۔ ..... ” طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ ” .

”علمِ دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

ان دونوں حدیثوں میں جس ”علم“ کا ذکر ہے، وہ علم شرعی ہی ہے۔ نیز عرف و عادت میں بھی ”علم“ سے، علمِ دینی ہی مراد ہوتا ہے، جن فنون کو لوگ علم سے موسوم کرتے ہیں، ان کے جاننے والوں کو، عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ انہی فنون کی طرف منسوب ہو کر، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، میکینیکل صاحب، سائنسٹ صاحب وغیرہ کہلاتے ہیں۔

غرضیکہ ”علم“ سے علم شرعی کا مراد ہونا، نہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، بلکہ عرف و رواج بھی اس پر شاہدِ عدل ہے، اور اس میں کوئی دورانے نہیں ہیں، اور اگر ہو، تو اختلاف نہیں، بلکہ خلاف ہے۔

**لیکن** ان تمام باتوں کے باوجود-کہ ہمارا مستقبل، ہماری عزت و رفت اور ہماری فلاح و ترقی، ایمان، عملِ صالح، علومِ دینیہ اور طاعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ علومِ عصریہ کا حاصل کرنا، نہ صرف مباح، بلکہ فرضِ کفایہ ہے، جیسا کہ ارشادِ خداوندی: ﴿وَعَلَّمَنَا هُنَّ صَنَعَةً لِبُوْسٍ لَكُمْ﴾ اور ﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ سے صنعتِ زرہ سازی، ..... اور ﴿وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ سے مختلف مصنوعات، مثلًا؛ برتن اور دیگر ضروری اشیاء کی صنعت، ..... اور ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَغْيِنِنَا﴾ سے، کشتی و جہاز سازی وغیرہ کی صنعت کی اباحت، ..... اور ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

هَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور ﴿مَرَاجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اہمیت و افادیت ثابت ہوتی ہے۔

صاحب درمختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرضیت تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں:

”وَاعْلَمْ أَنَّ تَعْلُمَ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ : وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ لِدِينِهِ . وَفَرْضَ كِفَائِيَةٍ : وَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعٍ غَيْرِهِ“.

”علم کا حاصل کرنا فرض عین اور فرض کفایہ ہے، آدمی اپنے دین کے لیے، جس قدر علم کا محتاج ہے، اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد دوسروں کی نفع رسانی کے لیے، جس علم کا محتاج ہے، اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔“

علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف ”رد المحتار - المعروف بـ ”الشامی“ میں ”درمختار“ کی عبارت: ”فرض کفایہ و هو ما زاد علیہ لنفع غیرہ“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فرض کفایہ علم دینی و دنیوی دونوں کو شامل ہے، علم دینی: جیسے نماز جنازہ۔ اور علم دنیوی: جیسے ضروری مصنوعات کا علم۔ صاحب ”تبیین المحارم“ فرماتے ہیں کہ: فرض کفایہ سے مراد ہر ایسا علم ہے، جس کے بغیر دنیوی امور انجام پذیر نہیں ہو سکتے، مثلًا: طب، حساب، اور اصول صناعت وزراعت وغیرہ۔“

”وَفَرْضُ كِفَائِيَةٍ : يَتَنَاؤلُ مَا هُوَ دِينِي كَصَلَادِ الْجَنَازَةِ ، وَدُنْيَوِي كَالصَّنَائِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا ؛ ..... قَالَ فِي تَبْيَينِ الْمَحَارِمِ : وَأَمَّا فَرْضُ

الْكِفَائِيَةِ مِنَ الْعِلْمِ، فَهُوَ كُلُّ عِلْمٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِي قِوَامِ أُمُورِ الدُّنْيَا  
كَالْطِبِّ وَالْحِسَابِ ..... وَأُصُولِ الصَّنَاعَاتِ وَالْفَلَاحِ  
كَالْحِيَاكَةِ وَالسِّيَاسَةِ وَالْحِجَامَةِ . اہ . (رد المحتار: ۱/۱۲۶)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے، اسی میں ہماری بقا  
وفلاح اور عزت و ترقی مضمرا ہے۔ اور علوم دنیویہ (فنون) کا حاصل کرنا نہ صرف  
جانز و مباحث، بلکہ فرض کفایہ ہے۔

ہمارے اور غیروں کی ترقی کے اصول جدا جدا ہیں۔ غیر چوں کہ احکام شرعیہ  
کے مکلف نہیں، اس لیے دنیوی ترقی کے لیے انہوں نے جو غیر شرعی اصول  
اپنارکھے ہیں، دنیا میں ان پر اس کا کوئی و بال نہیں ہوگا، اور وہ ترقی کی منزلیں  
ٹکرتے چلے جائیں گے، جب کہ مسلمان شریعت کے مکلف ہیں، اگر وہ  
اصول شرعیہ کو چھوڑ کر، غیر شرعی اصولوں کو اپنا کر، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی  
بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ ترقی کر بھی لی، تو وہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔

..... خُذْ مَا صَفِيَ وَذَعْ مَا كَدِرْ .....

..... الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ مَا وَجَدَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .....



”إِنَّ رَبَّكُمْ وَمَا تُبَدِّلُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ  
 وَمَا تُبَدِّلُ، وَبَيْنَ رَبِّكُمْ وَمَا تُبَدِّلُ،  
 وَنَبِيُّكُمْ وَمَا تُبَدِّلُ، وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ  
 عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ،  
 وَلَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ مِنْ سَوْءَاتِكُمْ، وَلَا أَنْسَأَ  
 رَبُّكُمْ مِنْ نَعْمَلَاتِكُمْ - إِلَّا بِالنِّقْوَلِ“ -

(الْمُبَيْث)

(۲)

مکالمہ بابت:

## بندوں کے حقوق

کردار:

- (۱) مفتی صاحب اول: (حامد)
- (۲) مفتی صاحب ثانی: (ماجد)
- (۳) والد مع ولد: (زادہ/ خالد)
- (۴) ولد مع والد: (خالق/ جاوید)
- (۵) بہن کا وکیل بھائی مع بہنوئی: (ساجد/ عادل)
- (۶) داماد مع خسر: (شاکر/ صابر)
- (۷) خسر مع ولد، بہو کا شکوہ لے کر: (عابد/ عاقب)
- (۸) بہنوں کا وکیل مع بھائی: (عاطف/ عاکف)
- (۹) پڑوسی مدعی مع مدعی علیہ: (راشد/ شاہد)
- (۱۰) پرنسپل مع ٹھپر: (ثاقب/ ثابت)
- (۱۱) سینٹھ مع مزدور: (ذاکر/ واجد)

## مقدمہ (۱)

**(۱) والد (زاہد):** السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

کہیے جناب مزارج بخیر ہیں؟ کیسے آنا ہوا؟

**زاہد:** عالی جناب مفتی صاحب! یہ میرا لڑکا (خالد) ہے، لیکن مجھے اس سے بڑی شکایات ہیں، میں نے اسے چھوٹے سے بڑا کیا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس کی تعلیم و تربیت کیلئے رات دن مخت و مشقت اٹھائی، اور اسے جو ہر تعلیم سے آراستہ کر کے، آسمان پر اڑنے کے خواب دکھائے، اور آج جب یہ اپنی اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر آئی، ایس آفیسر (I.S. Officer) بن گیا، تو ہمارے ساتھ اس کے طور طریق بالکل بدل چکے ہیں، نہ اسے ہمارے ادب و احترام کا خیال ہے، اور نہ ہی حقوق والدین کا پاس و لحاظ، کبھی سیدھے منہ نہ بات کرتا ہے، اور نہ ہی ہمارے حقوق کو ادا کرتا ہے، بلکہ اپنے دوست و احباب کے سامنے بارہا اس فکر کا اظہار کر چکا کہ ابھی تو ان دونوں بوڑھا بوڑھی کو مکان میں رہنے دے رہا ہوں، لیکن کل جب میری شادی ہو جائے گی، تو ان دونوں کو اولڈ ہاؤس (Old House) میں داخل کر دوں گا، لیکن ان باتوں کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ لخت جگر، نورِ نظر، کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن نہ بنے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کہ آپ اسے سمجھائیے، کہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، اور آدمی ان کی خدمت کر کے، کس طرح اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو

حاصل کر سکتا ہے، شاید کہ آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے، اور میرا یہ لخت جگر، نورِ نظر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔

### (۱) مفتی حامد صاحب (لڑکے خالد سے مخاطب ہو کر):

خالد! تمہارا اپنے والدین کے حقوق کا پاس و لحاظ نہ کرنا، ان سے سیدھے منہ بات نہ کرنا، دوست و احباب کے سامنے ان کو بوڑھا بوڑھی کہنا اور ان کو اولاد ہاؤس (OLD HOUSE) میں بھیجنے کی بات کرنا والدین کے ساتھ نہایت بد تہذیبی و بد سلوکی ہے، جب کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، سورہ احتفاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَوَصَّيْنَا إِلَّا نَسَانَ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًا﴾۔ ”اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے۔“ (سورہ احتفاف: ۱۵)

سورہ بنی اسرائیل میں ہے: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَيْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحْدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهِهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾۔

”اور تیرے پروردگار نے حکم دے رکھا ہے، کہ بجز اسی کے کسی اور کی پرستش نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اگر وہ تیرے سامنے بڑھا پے کو پہنچ جائیں ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تو، تو ان سے ہوں بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھٹکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات چیت کرنا۔“ (سورہ بنی اسرائیل: ۲۳)

اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے، وہ یہ ہیں:

(۱) والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (یعنی نوکروں، غیروں اور اولڈ ہاؤس کے رحم و کرم پر انہیں مت چھوڑو)۔

(۲) والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔

(۳) ان کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہو۔

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ . (بني اسرائیل: ۲۳)

﴿رَبَّنَا أَغْفِرْ لِيْ وَلَوَالدَّيْ﴾ . (سورة ابراهیم : ۳۱)

اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کی نگاہ میں ذاتِ خداوندی کے بعد، والدین کا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے قرآن کریم اور سنتِ طیبہ نے جہاں اللہ کی توحید کو بیان کیا، وہاں حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق، اور ان کی اہمیت کو بیان کیا۔ کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے، لیکن ظاہری طور پر مادی لحاظ سے، والدین بھی اس عملِ تخلیق میں ایک حد تک شریک ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا:

﴿مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ؟﴾ - ”والدین کا کیا حق ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہُمَا جَنَّتَكَ وَنَارُكَ“.

”وہ دونوں تمہاری جنت ہیں اور تمہاری جہنم ہیں۔“

یعنی والدین ہی کے حوالے سے معاشرہ بنتا بھی ہے، اور بگڑتا بھی، اور یہی وہ نعمت ہے، جس کی قدر کر کے، تو میں دنیا میں سرفراز ہوتی ہیں۔

اہنذا خالد! تم اپنے والدین کو ستانے سے بچو، کیوں کہ ممکن ہے، تم آج ان کو

ستاؤں گے، کل کوتھا ری اولاد تمہیں ستائے گی، جیسا کہ آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

آج مغربی معاشرہ نے طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا کر، اولاد اور ماں باپ کے درمیان فاصلہ اور جزیش پیدا کر دیا ہے، اسی لیے اکبر مرحوم نے بہت پہلے اس پر احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا تھا:

ہم ایسی کل کتابیں لاٹ ضبطی سمجھتے ہیں!  
جسے پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں!

**خالد:** جزاک اللہ مفتی صاحب! آپ نے مجھ نادان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچالیا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی اپنے والدین کو نہیں ستاؤں گا۔

## مقدمہ (۲)

(۲) لڑکا (خالق): السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**مفتی صاحب:** وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

کہیے جناب! خیریت سے ہیں؟ آج دونوں باپ بیٹے کہاں نکل آئے؟

**خالق:** جناب مفتی صاحب! یہ میرے والد صاحب ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ میرے اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر مجھے انہیں ابا کہنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، کیوں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جب سے مجھ میں شعور بیدار ہوا، تب سے آج تک یہ مجھے ہمیشہ کوستے رہے، اور میرے وجود کو بجائے رحمت کے زحمت سمجھتے رہے، اور بار بار یہ طعنہ دیتے رہے،

کہ تیری کفالت و پورش کے لیے مجھے اپنی غیرت نفسی کو خیر باد کہنا پڑا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر، تیری ضرورتوں کی تکمیل کرنا پڑی، میں نے جب جب ان کے سامنے کسی عربی مدرسہ یا سرکاری اسکول میں تعلیم کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا، اور کہا کہ تم کھیتی باڑی میں کام کرو، یا محنت مزدوری کر کے پانچ، پچس روپیہ روزانہ گھر میں لا کر دو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ کیا مسلمانوں کو نو کریاں ملتی ہیں؟ دیکھو اپنے محلے میں کتنے لڑکے عالم فاضل، بی اے، بی کام کی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود، آوارہ پھر رہے ہیں، **حضرت مفتی صاحب!** آپ میرے والدِ محترم کو بتلا یئے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے! اور والد پر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟

### (۲) مفتی حامد صاحب (والد سے مخاطب ہو کر):

جاوید! آپ کا اپنی اولاد کو کو سنا، ان کے وجود کو بجائے رحمت کے زحمت سمجھنا، اور بار بار یہ طعنہ دینا کہ تیری کفالت و پورش کے لیے مجھے اپنی عزت نفس کو خیر باد کہنا پڑا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا، درست نہیں ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ: ”فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ“ . ”تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔“

(ریاض الصالحین: ص/۶۲)

اسی طرح اپنی اولاد کو تعلیم نہ دلو اکر، انہیں کھیتی باڑی یا مزدوری وغیرہ میں لگا دینا، اور یہ کہنا کہ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ وغیرہ، یہ سب نامناسب کلمات ہیں، جن سے

بچنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اولاد کے چند حقوق عرض کیے دیتا ہوں:

(۱) اولاد کو زحمت، مصیبت، بے قیمت خود کا شتم پودا نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کی بیش بہانعمنگی ہے، اس کی ایسی ہی قدر کی جانی چاہیے، جیسے کسی بیش بہانعمنگی کی قدر کی جاتی ہے۔

(۲) اولاد کو فقر و فاقہ اور تنگی کا سبب نہ سمجھیں، کیوں کہ غربت اور فقیری، امیری اور مالداری یہ سب انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے۔

(۳) جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت اولاد عطا کرے، تو اس کی قدر دانی کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ اس کی بہتر پرورش کی جائے، اس کی ضروریات مہیا کی جائے، پیدائش کے بعد کان میں موبائل فون کی رنگ ٹون سنانے کی بجائے، آذان دی جائے، تحسینیک، دعائے برکت، ساتویں دن عقیقہ، اور بہتر سے بہتر نام رکھا جائے، غلط باتوں پر سمجھائیں، محبت میں چھوٹ نہ دیں، کیوں کہ اولاد جہاں نعمت ہے، وہاں آزمائش بھی ہے، ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ . (سورہ تغابن: ۱۵)

﴿إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ . (تغابن: ۱۳)

﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ . (منافقون: ۹)

(۴) آخرت کے اعتبار سے ان کی فکر کی جائے، کیوں کہ حکم خداوندی ہے:

﴿فُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا﴾ . (سورہ تحریم: ۶)

(۵) ان کے لیے دعا کی جائے، ارشادِ ربانی ہے:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ .

(سورہ ابراہیم : ۳۰)

(۶) بوقتِ مرگ نیکیوں کی وصیت کریں، ارشاد ہے:

﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِيٍّ ، قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ أَبَائِكَ ...﴾ . (سورہ بقرہ : ۱۳۳)

(۷) نماز، روزوں کا حکم کریں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوَةِ﴾ . (سورہ مریم : ۵۵)

اسی طرح ارشادِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”مُرُوفًا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ

سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا“ . (سنن أبي داود : ص / ۷۰)

(۸) ان کے ساتھ عزت و شفقت سے پیش آئیں، اور ان کو حسنِ ادب سے

آراستہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَخْسِنُوا أَدَبَهُمْ“ .

**جاوبہ:** جزاکم اللہ مفتی صاحب! میں ضرور بالضرور تعلیماتِ اسلامی پر عمل

کروں گا، اور اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کروں گا۔



## مقدمہ (۳)

(۳) (بھائی ساجد اپنی بہن کی طرف سے وکیل بن کر بہنوئی عادل کے ساتھ دارالافتاء میں حاضر ہوتا ہے): السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

فرمایئے جناب! آج سالے بہنوئی دونوں کوکس امر نے دارالافتاء لے آیا ہے؟

**بھائی (ساجد):** جناب مفتی صاحب!

یہ میرے بہنوئی صاحب ہیں، ۲۰۰۵ء میں میری اکلوتی بہن، جو ہمارے پورے خاندان کی لاڈلی ہے، اور والدِ محترم نے (اللہ ان کو جنت نصیب کرے) بڑے پیار و محبت سے اس کی پروش کی، اور اپنے جنتے جی کبھی اسے تکلیف نہیں ہونے دی، اور اس خیال سے کہ شادی کے بعد بھی اسے کوئی تکلیف نہ ہو، میرے اس خالہ زاد بھائی عادل کے ساتھ اس کی منگنی کی، عمر نے وفا نہیں کیا، اور نکاح سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نے ان کے اس کئے ہوئے رشتے کا پاس و لحاظ رکھا، اور عادل کے ساتھ اپنی اس پیاری بہن کا نکاح کر دیا، لیکن کیا بتائیں؟ نکاح کے بعد سے لے کر آج تک ہماری اس بہن کو ذرا بھی سکھ و چین نصیب نہ ہوا، جس کی وجہ سے ہم سب کا چین و سکون بھی غارت ہو گیا، ادھر والدہ محترمہ کی حالت قابل رحم بن گئی، کہ جہاں انہیں اپنے رفیقِ حیات (والد محترم) کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا غم و رنج کھائے جا رہا ہے، وہیں اپنی اس اکلوتی بیٹی کی تکلیف و مصیبت دیکھ اور سن کر مسلسل آنسو بہاتی ہیں، میرا یہ

بہنوئی عادل نہ اپنی بیوی کا نفقة ادا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، بلکہ جب کبھی میری بہن اپنی ضرورتوں کے لیے اس سے روپیہ پیسہ مانگتی ہے، تو یہ اسے زد و کوب کرتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ تیرا باپ بہت کچھ چھوڑ کر مر گیا، جا اپنی ماں اور بھائیوں سے اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے لے آ، اتنا ہی نہیں! بلکہ میری اس بہن سے پورا گھر خدمت لیتا ہے، کیا ساس تو کیا خسر، کیا دیور تو کیا نند، ہر کوئی اسے آرڈر (Order) کرتا ہے، اور ان کے آرڈر کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔

**مفتشا! آپ میرے بہنوئی کو بتائیئے کہ:**

بیوی کے شوہر کے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں؟

اور گھر میں کن کن لوگوں کی خدمت اس کے ذمہ واجب ہے؟

### (۳) مفتی حامد صاحب (بہنوئی سے مخاطب ہو کر):

عادل صاحب! آپ کا اپنی اہلیہ محترمہ کو زد و کوب کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنا، اور نفقة ادا نہ کرنا، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، نہایت ہی ناروا، اور سنگین جرم ہے، کیوں کہ شریعت نے عورتوں کے یہ حقوق بیان کیے ہیں:

(۱) میراث: جس کی تصریح ارشاد باری تعالیٰ: ﴿يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ میں کی گئی ہے۔

(۲) مهر: جو زناح کی صورت میں شوہر سے وصول کیا جاتا ہے، مهر کا ادا کرنا

شوہر پر لازمی ہے، خواہ معجل یعنی بوقت نکاح ہو، یا موّجل یعنی بعد میں۔

ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ .

”اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو،“

﴿فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً﴾ .

”پھر جس طرح تم ان عورتوں سے مشفع ہوئے ہو تو ان کو ان کے مہر دو، جو کچھ

مقدار ہو چکے ہیں۔“ (سورہ نساء: ۲۳)

ہاں! اگر بیویاں خود پورا، یا کچھ مہر خوش دلی سے معاف کر دیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۳) نفقہ: بیوی کا نفقہ اور خرچ شوہر پر لازم ہے۔

ارشادِ نبوی ہے: ”أَنْ تُطْعِمْهَا إِذَا طِعْمَتْ ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقْبِحْ ، وَلَا تَهْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ“ . ”جب تو کھائے، تو اسے کھلانے، اور جب تو پہنے، تو اسے پہنانے، اور اس کے منہ پر نہ مارے، اور اسے برانہ کہے، اور گھر کے سوا اس سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔“

پتہ چلا کہ بیوی کی ضروریات زندگی کی کفالت، یعنی علاج وغیرہ کا خرچ مرد کے ذمہ ہے، جس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ سُکنی یعنی مکان بھی شامل ہے۔

(۴) بیویوں کے ساتھ حسن سلوک یا حسن معاشرت اختیار کرنا۔

ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

”اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گذر بسر کیا کرو۔“ (سورہ نساء: ۱۹)

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”إسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا“ .

”عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔“

نیز آپ نے فرمایا: ”وَخَيَارُكُمْ ؛ خَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ“ .

”اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔“

**عادل:** جزاکم اللہ! حضرت مفتی صاحب!

..... میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور

اس کے پورے پورے حقوق ادا کروں گا۔ إِن شاء اللہ!

## مقدمہ (۴)

(۴) (داماد-شاکر- اپنے خسر- صابر- کے ہمراہ دارالافتاء میں حاضر ہوتا

ہے): السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

فرمایئے! جناب مزارج بخیر ہیں؟

آج داماد و خسرا یک ساتھ دارالافتاء حاضر ہوئے، خیریت تو ہیں؟

**داماد (شاکر):** جناب مفتی صاحب!

یہ میرے خسر محترم ہیں، ان کی صاحب زادی میرے عقدِ نکاح میں ہے، یہ خود

تو بڑے دین دار انسان ہیں، مگر کیا بتاؤں اُن کی صاحب زادی لگتا ہے ”شیطان

کی خالہ“ ہے، جب سے شادی ہوئی میری مسرت و شادمانی سے بھری زندگی

بالکل ویران ہو چکی ہے، جینا دو بھر ہو گیا ہے، گھر جہنم بن گیا، نہ باہر سکون ہے نہ

اندر، جب آفس سے اپنے کام کا ج پورے کر کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، تو یہاں ایک دوسرا محاذ پہلے سے ہی کھلا ہوتا ہے، اور اس محاذ پر ان کی صاحب زادی ان کلمات کے ساتھ میرا بھر پورا استقبال کرتی ہے، کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے کی فکر کبھی، ذرا اپنے پڑوں کو دیکھتے کہ کیسے اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں، مختلف ملکوں کی سیرو تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، ایک سے ایک لباس پہناتے ہیں، اور قیمتی سے قیمتی زیورات خود جو یلری کے یہاں لے جا کر دلاتے ہیں، اور تم ہو کہ بس عید الفطر پر ایک جوڑا جو سلوادیا، اور خصتی کے موقع پر جو نقلی زیورات دلوادیئے، بار بار اسی کا احسان جلتا ہے، اتنا ہی نہیں! بات بات پر یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے خلع لے لوں گی، نہ اپنی نظر کی حفاظت کرتی ہے، اور نہ میری عزت کی، نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ میری اطاعت کرتی ہے۔

مفتشا! آپ ان کے والد کو سمجھائیے کہ وہ اپنی بیٹی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کریں، ورنہ بصورتِ دیگر میں اسے طلاق دے دوں گا۔

#### (۴) مفتی حامد صاحب (خسر سے مخاطب ہو کر):

جناب صابر صاحب! آپ اپنی صاحب زادی کو سمجھائیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، نماز روزہ کی پابندی کرے، اور اسے یہ بتائیے کہ انسانی معاشرت کی اساس اور بنیاد خاندان ہے، اور خاندان کا آغاز میاں بیوی کے مقدس رشتے سے ہوتا ہے، اور انہیں بنیادوں پر معاشرے کی پر شکوہ عمارت اور تہذیب و تمدن کا خوبصورت محل تعمیر ہوتا ہے،

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ .

”مرد عورتوں کے نگران ہیں۔“ (سورہ نساء: ۳۲)

اور حدیث پاک میں وارد ہے: ”الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ“ .  
 ”مرد اپنے اہل خانہ کا نگران ہے، اور اسی سے نگرانی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔“  
 مرد کو بیوی پر جو حقوق حاصل ہیں، ان کی بنیاد مرد کا قوام ہونا، اور گھر والوں کا  
 اُس کی اس حیثیت اور کردار کو تسلیم کرنا ہے، نہ یہ کہ عورت مرد بن کر زندگی  
 گزارے، اور اُس کا دائرة کاربھی مرد کی طرح ہو، (جیسا کہ آزادی نسوں کا  
 پُرفیب نعرہ اور مساوات کے نعرہ سے آج عورتوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے)۔  
 شریعتِ اسلامیہ نے عورت پر مرد کے جو حقوق عائد کیے ہیں، میں آپ کی  
 سماحت کے حوالہ کرتا ہوں، آپ گھر جا کر اپنی صاحب زادی کے گوش گزار کر دینا:  
 (۱) مرد کا سب سے پہلا حق ..... اُس کی اپنی بیوی پر ”برتری“ ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ .

”مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۲۲۸)

اور حدیث پاک میں ہے: ”أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًا عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا“ .

”لوگوں میں سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لَوْ كُنْتُ أَمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمْرَثُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا“ . ”اگر میں (اللہ کے علاوہ)  
 کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“

(۲) مرد کا دوسرا حق ..... بیوی شوہر کی اطاعت و فرماں برداری کرے۔

ارشادِ خداوندی ہے: ﴿فَالصِّلْحُتُ قِنْتُ﴾ . ”پس جو نیک ہیں وہ فرمانبرداری کرنے والی ہیں۔“ (سورہ نساء: ۳۲)

(۳) تیسرا حق ..... مرد کی عزت و ناموس اور رازوں کی حفاظت کرے۔  
ارشاد ہے: ﴿خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ﴾ . ”یعنی وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی۔“ (سورہ نساء: ۳۲)

اور ہر اس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں، جو شوہر کی غیر موجودگی میں بطور امانت عورت کے پاس رہے، (جس میں نسب، آبرو، مال اور راز وغیرہ، نیز عفت و پاک دامنی کی حفاظت داخل و شامل ہے)۔

ارشادِ نبوی ہے: ”خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمْرَتَهَا أَطَاعْتَكَ ، وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفِظْتْكَ فِيْ مَالِكَ وَنَفْسِهَا“ .

(۴) چوتھا حق، ”حق طلاق“ ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ . ”نکاح کی گردشوہر کے ہاتھ میں ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۲۳۷)

حاصل کلام یہ کہ، ..... مرد کو ناگزیر حالات میں طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔

**صابر:** حضرت مفتی صاحب! شکر یہ! میں ضرور بالضرورا پنی بچی کو اس کے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کروں گا۔

## مقدمہ (۵)

(۵) (خسر- عابد- اپنی بہو کا شکوہ لے کر اپنے بیٹے- عاقب- کے ہمراہ  
دارالافتاء میں حاضر ہوتا ہے): السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتشی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

فرما یئے جناب! خیریت تو ہیں؟؟!

**خسر (عبد):** جناب مفتشی صاحب!

یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی بیوی سے بڑی شکایت ہے، کہ جب سے اس کے  
قدم میرے گھر میں پڑے، تب سے گھر کا پورا نظام تباہ و بر باد ہو گیا ہے، کیوں کہ  
میری بہو، میرا اور اپنی ساس کا کہنا نہیں مانتی، نہ ہم دونوں کی خدمت کرتی ہے، نہ  
ہمیں وقت پر کھانا پینا مہیا کرتی ہے، نہ ہمارے بستر اٹھاتی ہے، نہ ہمارے کمرے  
میں جھاڑ ولگاتی ہے، دکھ درد میں راحت رسانی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ایسی  
باتیں سناتی ہے، کہ اس تکلیف میں اضافہ ہو جائے، مثلًا۔ یہ کہتی ہے: کیا ہوا  
بڑھاپے میں اس طرح کی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں، اسے برداشت کرو، صبر سے کام  
لو، صبر کا بڑا اجر ہے، دوسرے بوڑھے لوگوں کو ذرا دیکھو کہ وہ کیسی کیسی مصیبتوں  
میں مبتلا ہیں، لیکن کبھی ان کی زبان سے حرف شکایت نہیں نکلتا، اور وہ خدائی فیصلے  
پر راضی برضار ہتے ہیں، اور تم ہو کہ ذرا تکلیف ہوئی تو زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے  
ہو، اور اپنے بیٹے، بہو، پوتا، پوتی کے آرام کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، اور میرا یہ  
بیٹا اپنی بیوی کو کچھ نہیں بولتا، بلکہ اس کی طرف داری کرتا ہے، میں کہتا ہوں: ایسی

نا فرمان غیر خدمت گذار بیوی کو طلاق دیدے، تو طلاق بھی نہیں دیتا، آپ ذرا اسے سمجھائیئے، کہ وہ اپنی بیوی کو ہماری خدمت و طاعت کی تاکید کرے۔

### (۵) مفتی حامد صاحب (بیٹی سے مخاطب ہو کر):

بیٹا عاقب!..... ذرا اپنی ہوم منستر (HOME MINISTER) بیگم صاحبہ کو تاکید کرے، کہ وہ اپنے خسر اور خوش دامن کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برداشت کرے، کیوں کہ کل کو تم دونوں بھی کسی کے خسر اور خوش دامن بنو گے۔

### مفتی صاحب خسر سے مخاطب ہو کر: عابد صاحب!

اگر آپ دونوں میاں بیوی اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے، تو اس طرح کی شکایات کبھی بھی آپ کی زبان سے نہ نکلتیں، آج ہر گھر میں ساس بہو، اور خسر بہو کے درمیان بس اسی وجہ سے جھگڑا اور شکوہ ہے کہ ہماری بہو ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری خدمت نہیں کرتی، یہ سب شکوے شریعت سے ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر ہیں، کیوں کہ ساس سر کی خدمت اور طاعت بہو پر واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ساس سر کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اس کا سراپا احسان ہے، ویسے بھی گھر کا کام کا ج اور کھانا پکانا، بہو کی قانونی ذمہ داری نہیں، بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آزوں مطہرات گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتی تھیں، اور صحابہ کے گھروں کا بھی یہی معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کا طرزِ زندگی بھی یہی رہا، خاص طور پر حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کی تمام ذمہ داریاں بذاتِ خود آنجام دیتی تھیں۔

**عابد:** شکر یہ مفتی صاحب!

..... میں اس کے بعد کبھی اپنی بہو کے متعلق حرفِ شکایت زبان پر نہیں لاوں گا، اور اس کی خدمت کو احسان تصور کروں گا، نہ کہ اپنا حق۔



## مقدمہ (۶)

(۶) (بہنوں کا وکیل - عاطف - بھائی - عاکف - کو لے کر دارالافتاء میں حاضر ہوتا ہے): السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**مفتی صاحب:** و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

مزاجِ عالیٰ بخیر تو ہیں؟؟!

**وکیل (عاطف):** جناب مفتی صاحب!

میں ان تین بھائیوں کی دو بہنوں کا وکیل ہوں، بہنوں کی شکایت یہ ہے، کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، اور وہ اپنے پچھے بڑی لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گئے ہیں، ان بھائیوں نے پوری جائیداد آپس میں تقسیم کر لی، اور بہنوں کو ان کا حق و راشت نہیں دیا، ان بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ بہنیں چوں کہ دوسروں کے گھر چلی گئیں، اس لیے باپ کے گھر ان کا کچھ بھی نہیں رہا، ہاں! عید، بارات کے موقع پر جب وہ میکے آتی ہیں، تو ہم انہیں کپڑے وغیرہ بنادیتے ہیں، جو ہماری طرف سے ان پر احسان ہے، رہی باپ کی جائیداد! تو اس میں ان کا کوئی حق نہیں ہے،

**مفتی صاحب!** آپ ان بھائیوں کو یہ بتلائیئے کہ باپ کی میراث میں بہنوں کا حق ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ میں تو یہ چاہوں گا، کہ آپ اپنے دستِ مبارک سے ان تین بھائیوں اور دو بہنوں کے درمیان پوری جائداد کو تقسیم کر دیجئے۔

### (۶) مفتی ماجد صاحب (بھائیوں سے مخاطب ہو کر):

**عَاكَف!** ذاتِ باری تعالیٰ نے جہاں لڑکوں کو حقِ وراثت عطا کیا، وہیں لڑکیوں کو بھی اس حق سے بہرہ و رفرما�ا، اور ماں باپ کے انتقال کے بعد جس طرح لڑکے اپنے والدین کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کی وارث ہوتی ہیں، ارشادِربانی ہے: ﴿يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ . ”اللَّهُ تَعَالَى میں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔“ (سورہ نساء: ۱۱)

لیکن آج غیر مسلم دنیا، خصوصاً یوروپ کا یہ تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے کہ- جب تک لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہے، تو ماں باپ اُس کی ذمہ داریاں ادا کرنے پر مجبور ہیں، لیکن جب وہ نکاح کے بعد شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، تو ماں باپ سے ہر طرح کی معاشی ذمہ داریاں کٹ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے انتقال کے بعد وہ میراث میں بھی حصہ دار نہیں رہتیں، لیکن اسلام نے اس تصور کو مستقل قانون کے ذریعے غلط ثابت کیا۔..... ہمارے معاشرے، بلکہ پورے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی تمام متروکہ جائداد پر قبضہ کر بیٹھتا ہے، اور بہنوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر جائداد (میراث) میں حصہ لینا چاہتی

ہوں، تو پھر تمہارے لیے بھائی کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، یہ سراسر غیر اسلامی طرزِ عمل ہے۔ اس لیے میں تم تینوں بھائیوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی بہنوں کو ان کا حصہ میراث دے دو۔

### **وکیل ”عاطف“ (مفتی صاحب سے مخاطب ہو کر):**

مفتی ماجد صاحب! آپ نے مسلم معاشرے کی ماوں بہنوں کو بہت بڑے خسارے سے بچالیا ہے، میں آج ہی ہر گھر میں یہ پیغام پہنچا دوں گا کہ ماں میں بہنیں۔ جن کو اپنے والدین وغیرہ کے ترکہ میں حصہ نہیں ملا، وہ دارالافتاء سے بالواسطہ رجوع کر سکتی ہیں۔

### **عاف (مفتی صاحب سے مخاطب ہو کر):**

مفتی صاحب! آپ نے بروقت ہماری آنکھیں کھول دی، ورنہ ہم دنیا اور آخرت میں بڑے نقصان و خسارے میں رہتے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ! آج ہی اپنی تمام بہنوں کا والدین کے ترکہ میں سے حصہ میراث دے دیں گے۔

### **مفتی ماجد صاحب (بھائی سے مخاطب ہو کر):**

آپ لوگ اپنے والد محترم کی کل جائیدادِ منقولہ وغیر منقولہ کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر کے، دو دو حصے تین بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی رکھ لے، اور ایک ایک حصہ دونوں بہنوں میں سے ہر ایک کو دیدے۔

### **بھائی لوگ:** جزاکم اللہ! مفتی صاحب! ہم ایسا ہی کریں گے۔

## مقدمہ (۷)

(۷) (پڑوئی مدعی- راشد- اپنے پڑوئی مدعی علیہ- شاہد- کو لے کر دارالافتاء حاضر ہوتا ہے): السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ! مزاج بخیر ہیں؟

**پڑوئی (راشد):** جناب مفتی صاحب!

میرا یہ پڑوئی ہے، جب سے میرے پڑوں میں رہ رہا ہے، میرا چین و سکون سب ختم ہو گیا ہے، ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے جھگڑتا ہے، میرے گھر کے آنکن کو اس نے کچرا دان بنارکھا ہے، رات دیر گئے تک زور و شور سے ٹیپ ریڈ یو اور موبائل پر گانے بجا تا ہے، ٹی وی پر سیریل (Serie) اور فلم (Film) دیکھتا ہے، میری بیوی، بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، **مفتی صاحب!** آپ اسے سمجھائیے، کہ شریعت میں پڑوئی کے کیا کیا حقوق ہیں؟ اور دوسرے کو تکلیف دینا کیا حکم رکھتا ہے؟

(۷) **مفتی ماجد صاحب** (پڑوئی مدعی علیہ "شاہد" سے مخاطب ہو کر):  
**شاہد!** تمہارا- اپنے پڑوئی سے (خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم) ذرا ذرا سی بات پر جھگڑنا، اس کے گھر کے آنکن کو کچرا دان سمجھنا، رات دیر گئے تک زور و شور سے ٹیپ ریڈ یو اور موبائل پر گانے بجانا، ٹی وی سیریل اور فلم دیکھنا، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، شرعاً یہ سب اعمال ناجائز ہیں۔ کا اش! کہ آپ کسی عربی مدرسہ میں جا کر تعلیم حاصل کر لیے ہوتے، تو ضرور اپنے پڑوئی کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آتے، کیوں کہ ہمارے ان مدارس میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ معاشرے میں

کس فرد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ لیکن آج کا معاشرہ چوں کہ ہمسائیگی کے تصور سے تھی دامن ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں، یا ہمارے اوپر والے فلیٹ میں، یا یہ پے والے فلیٹ میں رہنے والا کون ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

فرد، قائمِ ربطِ ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں!

موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں!

اس لیے میں آپ کے سامنے پڑوں کے متعلق چند حقوق بیان کیے دیتا ہوں:  
اولاً یہ سمجھ لیں کہ ہمسائے تین طرح کے ہیں:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ . ”ہم سایہ قریب اور ہم سایہ بیگانہ، اور پہلو کا ساتھی۔“ (سورہ نساء: ۳۶)

”ہم سایہ قریب“، یعنی جس کا گھر متصل ہو، یا مسلمان ہم سایہ، یا رشتہ دار ہم سایہ۔  
اور ”ہم سایہ بعید (بیگانہ)“، یعنی جس کا گھر دور ہے، یا غیر مسلم ہم سایہ، یا جس ہم سایہ سے رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔

اور ”پہلو کا ساتھی“، یعنی جو شخص عارضی طور پر کسی کام میں رفیق ہو، مثلًا: کلاس فیلو، ملازم ساتھی، سفر کا ساتھی وغیرہ۔

(۱) پڑوں اگر بیمار ہو جائے، تو اس کی عیادت اور خبرگیری کی جائے۔

(۲) انتقال کے بعد جنازہ کے ساتھ جانا، اور تدبیفین کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔

(۳) ضرورتاً قرض مانگے، تو بشرطِ استطاعت اسے قرض دینا۔

(۴) کوئی برا کام کر بیٹھے، تو پرده پوشی کرنا۔

(۵) اسے کوئی نعمت ملے، تو اس پر مبارک باد دینا، اور مصیبت پہنچ تو تعزیت کرنا۔

(۶) اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرنا کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جاوے۔

(۷) اپنے گھر اچھا کھانا پکے، تو یہ کوشش کی جائے کہ ہانڈی کی مہک اس کے بچوں کے لیے باعثِ ایزاد نہ ہو، الایہ کہ تھوڑا سا اُس کے گھر بھی بھیج دو۔

(۸) اس کی دینی تعلیم و تربیت اور عملی و اخلاقی اصلاح کرے۔

مختصر یہ کہ ہم سایہ مریض کی عیادت، مشائیع جنازہ، مالی اعانت، عیوب پر پرده پوشی، خوشی اور غمی کے احساسات میں شرکت اور ایزاد ہی کی تمام ممکنہ صورتوں کا سد باب، اور ہم سایہ کے نازک احساسات کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ امت مسلمہ کے باہمی تعلقات کی استواری اور ان کی ملی زندگی کی پائیداری کا دار و مدار جس طرح خاندان کی مضبوطی پر ہے، اسی طرح اجتماعی اور ملی زندگی کے روابط کی استواری پر بھی ہے، اور ان روابط کا آغاز ہم سائیگی کے تعلقات سے ہوتا ہے، اس لیے امت مسلمہ کا فرض ہے کہ ہم سائیگی کے حقوق کی پاسداری کرے۔

**شاهد:** شکریہ مفتی صاحب!

آج کے بعد میں اپنے پڑوسی / ہم سایہ کو کسی قسم کی گزندو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔



## مقدمہ (۸)

(۸) (پرنسپل-ثاقب- اپنے ٹیچرس اسٹاف (Teacher,s Staff) کے ساتھ دارالافتاء میں حاضر ہوتا ہے): السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتشی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

کہیے پرنسپل صاحب! مزاج بخیر ہیں؟

کیا آج پورے اسٹاف کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں؟

**پرنسپل (ثاقب):** نہیں جناب مفتشی صاحب!

سیر و تفریح ہم لوگوں کے مقدر میں کہاں، ہم تو اپنا دکھڑا لے کر، آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، مفتشی صاحب! یہ میرا ٹیچنگ اسٹاف (Teaching Staff) ہے، تعلیمی اوقات میں موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور اپنے ذاتی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کالج کی تعلیم بہت متاثر ہو چکی ہے، اس سال کا ریز لٹ (Result) بالکل صفر ہے، اور میرا سر-بچوں کے سرپرستوں کے سامنے شرم سے جھکا جا رہا ہے، مفتشی صاحب! آپ ذرا انہیں سمجھائیے، کہ کیا تعلیمی اوقات میں موبائل فون کا استعمال، اور ذاتی کاموں میں اشتیغال شرعاً جائز ہے؟ یا ناجائز؟

(۸) **مفتشی ماجد صاحب** (ٹیچرس/ اساتذہ کی طرف متوجہ ہو کر):

محترم ٹیچرس و اساتذہ کرام!

ہم سب کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ والدین کے بعد معلم ہی ہے، جو بنیادی اسلامی تصورات کے ذریعے مسلمان قوم کے صالح افراد میں اسلامی سیرت و کردار کی بنیاد رکھ سکتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی اصلاح، بلکہ اس کی تیکمیل کے بعد اپنے شاگردوں کے لیے ایک عملی مثال اور مینارہ نور بن سکتا ہے، جس سے اس کے شاگرد ہر وقت نورِ اکتساب کر سکتے ہیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے، جب کہ استاذ واقعۃُ استاذ ہو، کیوں کہ:

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں!

آدمی، آدمی بناتے ہیں!

لیکن آج صورتِ حال یہ ہے کہ اساتذہ کی، ایک بڑی تعداد اپنے فرائض کی حقیقت سے نا آشنا ہے۔

اس لیے اساتذہ اور ٹھپرس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ: ”درسین اور تمام ملازمین کا معاملہ مدرسہ، یا کسی اور ادارے کے ساتھ عقدِ اجارہ ہے، اور اجارہ یا تو وقت معلوم پر ہوتا ہے، یا عمل معلوم پر، مدرسین چوں کہ وقت کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے وہ اجیر خاص ہیں، اور اجیر خاص کے لیے وقتِ متعین میں مفوضہ کام کے علاوہ، دوسرے کام میں مشغول ہونا درست نہیں ہے، لہذا ہر ایسا کام جو مدرسین کے فرائض منصبی میں کسی قسم کی کوتا ہی اور حرج کا سبب بنے، وہ شرعاً ناجائز ہوگا، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجیر خاص کے لیے وقتِ متعین میں نوافل پڑھنے کی عدمِ اجازت پر علماء کا اتفاق نقل فرمایا ہے،

اہذا تعلیمی اوقات میں موبائل فون کا استعمال، اور ذاتی کاموں میں مشغول ہونا شرعاً جائز نہیں ہے۔“

**ثابت** (مع دیگر اساتذہ): مفتی صاحب! جزاک اللہ کہ چشمہم باز کر دی!

..... آپ نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں پر آگاہ کیا، جن سے آج تک ہم غافل رہیں، ان شاء اللہ العزیز! آئندہ اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو پوری ترن دہی سے انجام دیں گے۔



## مقدمہ (۹)

(۹) (سیٹھ-ڈاکر-اپنے نوکر-واجد- کے ہمراہ دارالافتاء میں حاضر ہوتا ہے):

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتی صاحب:** علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

مزاج بخیر تو ہیں؟ کہیے سیٹھ کیسے آنا ہوا؟

**سیٹھ(ڈاکر):** مفتی صاحب! میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے، جس میں یہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے، کہ یہ پوری دیانت داری و ایمان داری کے ساتھ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس سال میرا بڑا نقصان ہوا، اور میں بیس لاکھ کا مقروض ہو چکا ہوں، آپ انہیں سمجھائیے کہ مالک کے مزدور پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں؟ (درمیان میں مزدور **واجد**): اور یہ بھی کہ مزدور کے مالک پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں؟

## (۹) مفتی ماجد صاحب (سیٹھ اور مزدور کی طرف متوجہ ہو کر):

مالک و مزدور، آقا و غلام، کاشت کار روز میں دار، ہیڈ ماسٹر و ٹیچپرس، منتظم و اساتذہ، سب انسانی حقوق میں یک ساں اور برابر ہیں، فریق اول کو اپنے آپ کو برتر اور فریق ثانی کو کم تر سمجھنے کا کوئی حق نہیں، کیوں کہ یہ تقسیم - خدائی تقسیم ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾۔ ”ہم نے ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔“ (سورہ زخرف: ۳۲)

آیت مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ مالک اور مزدور کے درمیان جو نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے، اس میں فریق اول کے کمال کو کوئی خل نہیں ہے، کیوں کہ تاجر، صنعت کار اور روز میں دار کو مزدور کی، اور مزدور واجیر کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان دونوں کی ضرورت ہی، روزگار فراہم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، وَدِينَكُمْ وَاحِدٌ، وَنِيَّكُمْ وَاحِدٌ، وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ - إِلَّا بِالْتَّقْوَى“۔ (کنز العمال: ۳/۳۲، رقم: ۵۶۵۲)

اگر فریق اول - فریق ثانی کو کم تر سمجھے گا، تو پھر آپسی اختلافات و تنازعات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے منتظم، پرنسپل اور مالک کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کی استطاعت کے مطابق ان سے کام لیں، اگر کبھی زیادہ کام لے لیں، تو اس کی اجرت بھی ادا کر دیں، نیز کام ہو جانے کے بعد اپنے ماتحتوں کو اجرت کے لیے بار بار چکرنہ کٹوائے، یعنی ٹال

مسئول نہ کرے، یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ ”صحیح بخاری: ۱/۳۲۳“ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”مَطْلُ الْغَنِيٌّ ظُلْمٌ“ . ”مال دار کا طال مسئلول کرنا ظلم ہے۔“ بلکہ ”سنن ابن ماجہ: ۱/۶۷“ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ”أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ“ . ”مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔“ ..... نیز ”صحیح بخاری: ۱/۹“ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”تمہارے غلام، خادم، ملازم، مزدور تمہارے بھائی ہیں، الہذا تم میں جس کے قبضے میں اس کا کوئی بھائی ہو، تو اس کو ویسا ہی کھلانے اور پہنانے، جیسا وہ خود کھاتا اور پہنتا ہے، اور اس کو ایسا کام کرنے کو نہ کہے، جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، اور کبھی ایسا کام کرنے کو کہے، تو خود بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔“

”إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيهِكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلَا تُكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْنِيُوهُمْ“ .

اور فریق ثانی (مزدور وغیرہ) کو چاہیے کہ فریق اول (منتظم وغیرہ) جو بھی کام سونپے، وہ تن من دھن سے پورے کرے، ان میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ ہونے دے، اور امانت داری و دیانت داری کا خیال رکھے، جیسا ذمہ داروں کے سامنے کام کرتا ہے، ایسے ہی اس کے غائبانہ میں بھی کرے، اور اپنے مالک کو کسی طرح کا شکوہ شکایت کا موقع نہ دے، کیوں کہ اجیر کی صفت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ . ” بلاشبہ بہتر اجیر وہ ہے جو طاقت و را اور امانت دار ہو۔“ (سورہ قصص: ۲۶)

## مالک و مزدور (ایک ساتھ): شکریہ مفتی صاحب!

آئندہ ہم اپنے اوپر واجب حقوق کی ادائیگی کا ضرور بالضرور خیال رکھیں گے۔

### مفتی ماجد صاحب:

آج ہر شخص اپنے حقوق کا خواہاں ہے، جس کے لیے باقاعدہ مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کی مختلف تنظیمیں اور یونینس (Unions) ہیں، مگر ادائیگی نفرض کے لیے نہ تو کوئی تنظیم اور انجمن موجود ہے، نہ ہی اس کا پاس لحاظ کیا جاتا ہے، اکبرالہ آبادی نے تو اسی کارروائی کے لئے کہا تھا:

نئی تہذیب میں وقت زیادہ تو نہیں ہوتی!

مذاہب قائم رہتے، صرف ایمان جاتا ہے!

اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا:

وضع میں تم ہو نصاری، تو تمدن میں ہنود!

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود!

اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے اوپر واجب حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، جب ہر شخص اپنے اوپر حق کو ادا کرے گا، تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور کسی کو کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہ ہوگا، اور ہمارا معاشرہ امن، چین، سکون اور شانستی کا گھوارہ بن جائے گا۔



”تَعَاشُرُوا كَالِّيْنَوَادِ  
وَتَعَامِلُوا كَالِّيْبَانِيْبِ“ (مَقْولَه)

(۵)

## مُکالَمَه بِابْتِ

# مشترکہ کاروبار کا جھگڑا اور اُس کا حل!

**کردار:**

ترجمان:

حامد: (بھائی اول)

خالد: (بھائی ثانی)

(ساتھ میں اور دو بھائی ہوں، کل چار بھائی اور تین بہنیں ہیں، لیکن عدالت میں صرف دو بھائی پہنچیں گے۔)

عابد: (رہنمایا)

مفتش محمود الحسن صاحب:

## مقدمہ

(حامد، خالد اور عابد کی ملاقات ایک دعوت میں ہوتی ہے، اور تینوں ایک ساتھ کھانے کے دوران، ایک دوسرے کے احوال دریافت کرتے ہیں، جس کے درمیان حامد اور خالد اپنے کاروبار کے متعلق بھائی بھنوں میں آپسی جھگڑے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے، سرکاری عدالت سے رجوع کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، جس پر عابدانہیں نہ صرف دارالافتاء سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے اپنی خدمات کی پیشکش بھی کرتا ہے، اس طرح یہ تینوں حضرات دارالافتاء پہنچتے ہیں۔)

**حامد، خالد اور عابد :** السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

**مفتشی (محمد محمود الحسن) صاحب:**

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

کہیے حامد، خالد اور عابد میاں! مزاج تو بخیر ہیں؟ آج آپ لوگ کچھ انجھے انجھے سے اور پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟

**حامد:** محترم مفتی صاحب! آج ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کہ آپ کو اپنے دل کا دکھڑا سنا کر، کچھ غم ہلکا کر لیں، اور شریعت کی روشنی میں ہمارے خاندانی جھگڑے کا حل پالیں۔

**مفتشی صاحب!** قصہ اس طرح ہے کہ۔ ہم چار بھائی اور تین بھنیں ہیں، ہمارے والد صاحب کی ایک کپڑے کی دکان ہے، جو اللہ کے کرم سے خوب چلتی

ہے، ہمارے والد صاحب نے اسی کی آمدنی سے، ہمارا ایک عالی شان مکان بنایا، ہم چار بھائیوں اور تین بہنوں کی شادیاں بھی اسی دکان کی آمدنی سے ہوئیں، بہنیں اپنے اپنے گھروں کو۔ اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ خوش ہیں، عید بارات کے موقع پر جب وہ ہمارے گھر آتیں، تو والد صاحب اپنی بیٹیوں، نواسوں اور نواسیوں کا خوب خیال رکھا کرتے تھے، دو بھائی تقریباً دس سال سے بیرون ملک، اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ برسرِ روزگار ہیں۔

ہم دو بھائی اپنے والد صاحب کے ساتھ، جب سے ہوش سنبھالا کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے، اور ہماری اس دکان کی آمدنی کا یہ حال تھا کہ والد صاحب نے اسی کی بنیاد پر شہر کے اہم مقامات پر تقریباً دس پلاٹ خرید رکھے تھے، جن کی مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے ہیں، پورا خاندان خوشی و مسرت، چین و سکون اور امن و امان کی زندگی گذار رہا تھا۔ کہ یکا یک والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہ ہم سب سوگواروں کو روتا، بلکہ اور سکتا ہوا چھوڑ کر، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ان کی وفات پر بیرون و اندر وہ ملک بھائی بہنوں کو خبر کی گئی، جس پر بہنیں تو بوقتِ جنازہ حاضر ہو گئی تھیں، مگر بیرون ملک جودو بھائی تھے، وہ حاضرنہ ہو سکے، اور آج تقریباً والد کے انتقال کو پانچ سال کا عرصہ بیت چکا، کاروبار جوں کا توں چل رہا ہے، اب تک میراث کی تقسیم نہیں ہوئی، اب وہ بھائی جو بیرون ملک برسرِ روزگار تھے، اور انہوں نے اپنی کمائی سے اپنی ذاتی پراپرٹی بھی بنالی، اسی طرح بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں، اور صرف ہم دو بھائیوں نے شبِ روز

محنت کر کے، والد صاحب کی حیات میں اور ان کے انتقال کے بعد بھی اس کاروبار کو پروان چڑھایا، اب دیگر بھائی بہنوں کا کہنا یہ ہے کہ والد کی اس پر اپرٹی میں ہم آپ لوگوں کے برابر کے شریک ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا ان دو بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ہم دو بھائیوں کے برابر ہے؟ جب کہ اس کاروبار کو ترقی صرف ہم دو بھائیوں نے ہی دی ہے۔

(خالد اور عابد دونوں سر سے اشارہ کرتے رہیں۔)

### مفتی (محمود الحسن) صاحب :

محترم حامد و خالد صاحبان!..... آج ہمارا معاشرہ اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف نہیں، اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے، تو وہ ویسے ہی چل رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، آیا وہ شریک اور پارٹنر (Partner) کی حیثیت سے کر رہے ہیں، یا ملازم کی حیثیت سے؟ یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کر رہے ہیں؟ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، مگر تجارت ہو رہی ہے، ملیں قائم ہو رہی ہیں، دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، مال و جائداد بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا کتنا حصہ ہے؟ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات صاف کرو، تو جواب دیا جاتا ہے کہ:

”یہ تو غیرت کی بات ہے، ..... بھائی بھائی میں صفائی کی کیا ضرورت؟!“

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر لیا اور کسی نے کم خرچ کر لیا، یا ایک بھائی نے

مکان بنالیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا، تو بس دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپس میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں کہ فلاں زیادہ کھا گیا اور مجھے کم ملا، اور اگر اس درمیان باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تقسیمِ میراث میں بھی اختلافات رونما ہوتے ہیں، مثلًا: باپ کے انتقال کے بعد میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں، اور اسی حال میں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اب اس دوران کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی بھائی اس کاروبار میں اپناروپیہ پیسہ لگاتا ہے، پھر سالہا سال گزر جانے کے بعد، جب ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے، تو باہمی نزاع جنم لیتا ہے کہ - ہر وارث اپنا حصہ، کاروبار کی موجودہ مالیت کے اعتبار سے طلب کرتا ہے، جب کہ بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کو ترقی دی، رات دن محنت کی، اور اس کو بام عروج پر پہنچایا، اس لیے باپ کے انتقال کے وقت کاروبار کی جو اصل مالیت تھی، اسی کے اعتبار سے حصہ دوں گا، نہ کہ موجودہ مالیت کے اعتبار سے، اسی طرح جس بیٹے نے پیسہ لگایا تھا، وہ کہتا ہے: چوں کہ باپ کے اس کاروبار میں میرا سرمایہ لگا ہے، اس لیے اس میں میرا حصہ اور لوگوں کی بہ نسبت زیادہ ہو گا۔

اب دیکھئے! وقت پر میراث تقسیم نہ کرنے سے، وارثوں کے درمیان جھگڑے کھڑے ہو گئے، بدگمانیاں پیدا ہوئیں، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا پایا گیا، جیسا کہ آپ خود اسی مصیبت کے شکار ہیں، اور یہ مصیبت، شریعت

اسلامی کی تعلیم: ”تَعَاشِرُوا كَالاٰخْوَانِ وَتَعَامِلُوا كَالاٰجَانِبِ“.

اسی طرح اُس کی یہ تعلیم کہ: ”انسان کے مرجانے کے فوراً بعد اُس کی میراث تقسیم کر دی جائے“، پر ترک عمل کی سزا ہے (جو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے)۔ کیوں کہ شریعت-معاملات کی صفائی کا حکم دیتی ہے، کہ کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ وہ باپ بیٹوں کے درمیان ہو، یا بھائی بھائی کے درمیان، یا پھر کسی اجنبی کے ساتھ ہو، صاف صاف ہونا چاہیے، کہ کس کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہ اس معاملے میں کس قدر منافع کا حق دار ہے؟ تاکہ آئندہ جھگڑے پیدا نہ ہوں۔

**خیرو!** چوں کہ آپ دونوں بھائی اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، اور اصل کاروبار والد ہی کا تھا، خواہ آپ دونوں نے محنت و مشقت سے اُسے پروان چڑھایا، مگر آپ لوگوں نے اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں اپنی شرکت کی حیثیت متعین نہیں کی تھی، اس لیے شرعاً آپ کی حیثیت اُن کے ساتھ معاون کی تھی، لہذا آپ کے والد کے انتقال کے وقت جتنی پراپرٹی اور بینک بیلنس تھا، اس میں تمام وارثوں کا حق ہے، والد کے انتقال کے بعد آپ لوگوں نے میراث کو تقسیم نہیں کیا، اور اسی سے کاروبار کو جاری رکھا، تو اس صورت میں آپ نے کاروبار کو جاری رکھ کر جتنے منافع حاصل کیے، وہ سب منافع، منافع فاسدہ کھلائیں گے، جنہیں اُن کے مالکوں کو لوٹانا واجب ہے، اور ان کے مالک تمام وارثین ہیں، لہذا دیگر وارثوں کو ان کے حصہ میراث کے بقدر، منافع میں بھی حصہ دینا لازم ہے، اس لیے اب آپ شرعی اعتبار سے وراثت کی تقسیم اس

طرح کریں: ”آپ کے والد کی پوری پراپرٹی اور بینک بیلنس کے کل گیارہ حصے کر لیں، جن میں سے ہر بھائی کو دو حصے، اور ہر بہن کو ایک ایک حصہ دے دیں۔“ آپ تمام بھائیوں کو میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں، کہ اپنی بہنوں کو بھی ان کا حصہ میراث ضرور دیں؛ کیوں کہ شرعاً آپ کے والد کے ترکہ میں ان کا بھی حصہ ہے، جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے:

﴿لِلَّهِ رِجَالٌ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أُوْ كُثُرٌ ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ . ”مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اُس چیز میں سے، جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اُس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر، حصہ بھی ایسا، جو قطعی طور پر مقرر ہے۔“ (سورہ نساء: ۷)

اور اس کا یہ فرمان:

﴿يُؤْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي ~ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ . ”اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہے۔“ (سورہ نساء: ۱۱)

ان دونوں آیتوں سے ترکہ میں عورتوں کی حصہ داری، اور بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی میراث میں شریک ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اگر آپ بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہ دیا، تو یہ ان کے مال کو ناحق طور پر

کھانا ہوگا، جو شرعاً حرام ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ .

”تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ“ . (مشکوٰۃ شریف: ص/ ۲۳۳)

”وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی۔“

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد:

”مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطْوَقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيَّنَ“ . کہ۔ ”اگر کوئی شخص ظلمًا، کسی کی ایک بالشت جگہ لے لے، تو اُس کو

قیامت کے روز سات زمینوں سے اُس کا طوق پہنا�ا جائے گا۔“ (صحیحین)

لہذا آپ لوگ، اپنی بہنوں کو اُن کا حصہ شرعی دے دو، تاکہ حرام خوری اور قیامت کے روز کے عذاب سے بچ سکو۔

**حامد و خالد** (ایک ساتھ): حضرت مفتی صاحب!

آپ کا بہت بہت شکر یہ کہ آپ نے ہمارا غم ہلکا کر دیا، اور شریعت کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا حل فرمایا۔

والسلام عليکم ورحمة الله وبركاته !!



﴿وَمِنْ أَيْتَهُمْ أَرْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَبَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَّكَةٌ وَرَدْمَةٌ ،  
 إِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (القرآن)

(۲)

مُکَامَه بَابِت

کیسے حاصل ہوزندگی کا سکون؟!

کردار:

ترجمان:

ساجد:

ماجد:

عامر:

مفتش مہدی حسن صاحب:

## مقدمہ

(ساجد، ماجد اور عامر کی چورا ہے پر ایک دن ملاقات ہوتی ہے، ساجد کو پریشان حال دیکھ کر ماجد اور عامر اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کرتے ہیں، تو ساجد اپنی پریشانیوں کی وجوہات بیان کر کے، ان کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ میں کسی ماہرو تجربہ کار و کیل کی تلاش میں ہوں، تاکہ اپنا مقدمہ کو رٹ میں جا کر کسی طرح حل کر لوں، اور اپنی پریشانیوں سے نجات پالوں۔)

**عامر:** ساجد! ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عائی و خاندانی مسائل، اپنے علمائے کرام و مفتیانِ عظام سے حل کرائیں، کیوں کہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ موجودہ عدالتوں میں اپنے مقدمات داخل کرنے سے، نہ صرف دینی نقصان ہوتا ہے، بلکہ بے انتہا مالی نقصان کے ساتھ ساتھ انصاف ملنے میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے، کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ، اس وقت ہوا، جب کہ فریقینِ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔

اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ مفتی شہر (مفتی مہدی حسن صاحب) کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ آپ کے اس مسئلے کو عقل و شرع کی روشنی میں، حل فرمائے کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔

**ماجد:** ساجد میاں! عامر جو باتیں کہہ رہے ہیں، بالکل منی برق ہیں، اور مجھے بھی قوی امید ہے کہ مفتی صاحب کے پاس آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو گا، کیوں

کہ ہمارے محلے کا ایک شخص بھی آپ ہی کی طرح ایک مسئلے میں بڑا پریشان تھا، کچھ دنوں کے بعد میں نے اُسے چین و سکون کی حالت میں دیکھا، تو ان سے پوچھا: کیا آپ کا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ کہنے لگا: جی ہاں! الحمد للہ، مفتی مهدی حسن صاحب نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا، تب ہی سے میں چین و سکون کی سانسیں لے رہا ہوں، ورنہ میں بڑا پریشان تھا۔

ساجد میاں! میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنا یہ مسئلہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں، اگر آپ کہیں تو ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔

**ساجد:** (عامر اور ماجد سے) تو پھر دریکس بات کی؟ ابھی اور اسی وقت مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔

(عامر، ماجد اور ساجد تینوں ایک ساتھ دارالافتاء پہنچتے ہیں۔)

**ساجد :** السلام علیکم و رحمة اللہ و برکاتہ!

**مفتی (مهدی حسن) صاحب:**

علیکم السلام و رحمة اللہ و برکاتہ! کہیے ساجد میاں! آج صحیح ہی صحیح کیسے دارالافتاء حاضری ہوئی، کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے؟

**ساجد:** جی ہاں مفتی صاحب! کئی روز سے ایک بات دل و دماغ میں کھٹک رہی تھی، سوچا آج مفتی صاحب سے اس کا خلاصہ کرلوں۔

مفتی صاحب! میں نے علمائے کرام سے نکاح کی تقریبوں، جمعہ کے خطبوں اور

عام نصیحت کی مجلسوں میں سنا کہ نکاح پاک دامنی کا ذریعہ ہے، نکاح نبیوں کی سنت ہے، نکاح سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح سے آدمی مددخداوندی کا مستحق ہوتا ہے، اور نکاح کی بدولت زندگی کا سکون میسر ہوتا ہے۔

لیکن میری زندگی نکاح کے بعد بالکل اس کے بر عکس ہے، نکاح سے پہلے کسی قدر چیز و سکون حاصل تھا، بیوی آجائے کے بعد، وہ بھی پوری طرح غارت ہو گیا، شام کو جب دن بھر کام کر کے گھر آتا ہوں، تو گھر، گھر نہیں، بلکہ.....؛ کبھی میدانِ جنگ، تو کبھی جنگ کے بعد کے آثار۔ کی منہ بولتی تصویر بناتا ہے۔ کبھی میری والدہ محترمہ اپنی بہو، یعنی میری بیوی سے لفظی جنگ میں مشغول ہوتی ہے، تو بیوی اُس کے دفاع میں برس رپیکار دکھائی دیتی ہے۔

کبھی بیوی کامنہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی ماں کے تیور بد لے بد لے نظر آتے ہیں۔ کبھی والد کی تیز نگاہوں کا سامنا ہوتا ہے، تو کبھی بھائیوں کی شکن پڑی جبینوں سے میرا استقبال ہوتا ہے۔

کبھی بہنیں ماں کے پاس جمع ہو کر بھابی (میری بیوی) کے خلاف نئی جنگ کی حکمتِ عملی پر غور و خوض کر رہی ہوتی ہیں، تو میری بیوی موبائل فون پر اپنے میکے والوں کے ساتھ، نئے دفاعی اسلوب و طریقہ کار پر، باہم تبادلہ خیال و مشورے میں مصروف ہوتی ہے، اب آئے دن گھر کے یہ مناظر دیکھ کر، میں دل ہی دل میں کہتا ہوں：“اے کاش! کہ میرا نکاح ہی نہ ہوا ہوتا، تو کتنا اچھا ہوتا، کہ اس پورے سکون کو حاصل کرنے کے لیے، میں اُس تھوڑے سکون سے بھی محروم

ہو گیا، جو بھی نکاح سے پہلے حاصل تھا، اسی لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ: ”آدھی روٹی پر قناعت کرو، ایک کے چکر میں نہ پڑو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اُس ایک کے چکر میں یہ آدھی بھی چلی جائے۔“

حضرت مفتی صاحب! میں اس مَقْوَلے کا پوری طرح سے مصدق بن چکا ہوں، اب آپ ہی بتائیے! میں اسِ مصیبت سے کیسے نجات پاسکتا ہوں؟

**مفتی (مهدی حسن) صاحب:** محترم ساجد صاحب!

مجھے آپ کے حالات سن کر بڑا رنج ہوا، اور اس بات پر افسوس بھی۔ کہ آپ اسلامی تعلیمات سے متعلق شکوک و شبہات میں بستلا ہیں، کہ نکاح کے بعد، بجائے سکون حاصل ہونے کے، موجودہ سکون بھی گارت و بر باد ہو جاتا ہے۔

بھائی ساجد صاحب! ہمارا اور آپ کا، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا ہر ہر جز، اور اُس کے احکام کا ہر ہر فرد، جہاں حقانیت و صداقت پر منی ہے، وہیں اس پر عمل کرنا تمام بنی نوعِ انسانی کی کامیابی و کامرانی، اور چین و سکون کا ضامن ہے۔ چنانچہ نکاح کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے یہ فرائیں:

(۱) - ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذِلِّكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾۔ ”اور جوان کے علاوہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی تم انہیں اپنے مال کے ذریعہ سے تلاش کرو، اس طور پر کہ قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ مسٹی نکالنے والے۔“ (سورہ نساء: ۲۳)

(۲) - ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

الْمُؤْمِنُتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّثُكُمُ الْمُؤْمِنُتِ ﴿٢٥﴾ .

”اور تم میں سے جو کوئی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو وہ تمہاری (آپس کی) مسلمان کنیزوں سے، جو تمہاری ملک (شرعی) میں ہوں (نکاح کرے۔ (سورہ نساء: ۲۵)

(۳)- ﴿۱۷﴾ وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۸﴾ . ”اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنائیں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے (یعنی میاں بیوی کے) درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو فکر سے کام لیتے رہتے ہیں“۔ (سورہ روم: ۲۱)

اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ ارشادات:

(۱)- ”يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ” . ”اے نوجوانوں کی جماعت! جو تم میں سے قدرت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہ کو بہت زیادہ نیچار کھنے اور شرم گاہ کی بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔“

(صحیح بخاری: ۲/۵۸، مشکوٰۃ ثریف: ص ۲۶۷)

(۲)- ”مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَرْوَجْ الْحَرَائِرَ ” . ”جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پاک اور پاکیزہ ہونے کی حالت

میں حاضر ہو، تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔” (ابن ماجہ: ص/۱۳۳)

(۳)- عن أبي هريرة أنّ رسولَ اللّهِ ﷺ قال : ”ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ“ . رواه الترمذی والنمسائی وابن ماجہ . ”تین شخصوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ میں لازم کر رکھا ہے: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے قیمت ادا کرنا چاہتا ہو، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہو۔“

(سنن ترمذی: رقم: ۱۶۵۵، الترغیب والترہیب: ص/ ۲۳۲)

(۴)- عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : ”النّكاحُ مِنْ سُنّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“ . ”نکاح میری سنت ہے، پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔“ (ص/۱۳۳، کتاب النکاح، فی فضل النکاح، رقم: ۱۸۲۶)

(۵)- عن أبي أیوب قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : ”أَرْبَعُ مِنْ سُنَّتِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاةُ ، وَالْتَّعَطُّرُ ، وَالسَّوَاقُ ، وَالنّكاحُ“ . ”چار چیزیں تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت رہیں: حیا، خوش مُو، مسوак اور نکاح۔“

(سنن ترمذی: ۱۶۹/۲، کتاب النکاح، رقم: ۱۰۸۰)

(۶)- ”مَنْ كَانَ مُؤْسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي“ . ”جو شخص نکاح کرنے کی مالی وسعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“ (طبرانی، ترغیب و ترہیب: ص/ ۲۳۲، رقم: ۱۸۳۵۵)

(۷) - ”مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ ، فَلَيَتَّقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي“ . ”جب کسی شخص نے نکاح کر لیا، تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب وہ (آگے) آدھے باقی ماندہ دین میں اپنے پرو ر دگار سے ڈرتا رہے۔“ (مشکوہ شریف: ص/ ۲۶۸، لمجم الاؤسط للطبرانی: ۳۷۲/ ۵)

اور فقہ حنفی کی ایک اہم و مستند کتاب ”در مختار“ میں علامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعْتَ مِنْ عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الآنِ ، ثُمَّ تَسْتَمِرُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا النَّكَاحُ وَالإِيمَانُ“ . ”حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے لے کر، آج تک (بلکہ قیامت تک) صرف دو ہی عبادتیں یک سال طور پر مشروع ہیں، ان میں سے ایک نکاح اور دوسرا ایمان، اور یہ دونوں عبادتیں جنت میں بھی جاری (وباقی) رہیں گی۔“ (۱/۱۸۵، کتاب النکاح)

**ساجد صاحب!** ان تمام آیتوں، روایتوں، اور نقہی عبارت سے آپ بآسانی اندازہ لگاسکتے ہیں۔ کہ نکاح شریعت کی نگاہ میں کس قدر اہم عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے ان کی ہم جنس بیویوں کو پیدا کر کے، ان پر کس قدر عظیم احسان فرمایا، کہ یہ بیویاں مردوں کے لیے سرمایہ راحت و تسکین، اور باعث سکون ہیں، ان سے مردوں کا دل بہلتا ہے، اور زندگی کے بہت سے اہم موڑوں پر یہی بیویاں اپنے شوہروں سے فطری محبت و ہم دردی کی بنارپ، انہیں سننچا لادیا کرتی ہیں۔

اب رہی آپ کی پریشانی، کہ آپ کو نکاح کے بعد سکون حاصل نہ ہوا، بلکہ موجودہ سکون بھی تباہ و بر باد ہو گیا، تو اس کی وجہ آپ کا نکاح کرنا نہیں، بلکہ بیوی کے ایک اہم حق کی پامالی ہے، اور وہ حق ہے، بیوی کو علیحدہ مکان دینا؛ کیوں کہ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ مکان کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر پر اُس کے اس مطالبے کو پورا کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ”بدائع الصنائع“ میں ہے: ”لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَ أَحْمَاءِهَا كَأَمْمَهِ وَأَخْتِهِ فَأَبْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ مُنْفَرِدٍ“۔ (شامی: ۲۰/۲، ہدایہ: ۲/۳۳۱)

اگر شوہرا پنی بیوی کو اس کے دیور، اپنے اقرباء، مثلًا مام، بہن کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور بیوی ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے، یا محض قرآن سے معلوم ہو جائے کہ وہ علیحدہ مکان میں رہنا چاہتی ہے، مگر زبان سے درخواست نہیں کرتی، تب بھی شوہر پر لازم ہے کہ اس کو علیحدہ مکان میں رکھے۔

یہ علیحدہ مکان کس درجہ اور نوعیت کا ہونا چاہیے؟ فقہائے کرام نے اس کی بھی وضاحت فرمادی، کہ اگر پورا گھر نہ دے سکے، تو بڑے گھر میں ایک ایسا کمرہ دے، جو عورت کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور وہ اس میں اپنا مال اور سامان مقلع رکھ سکے، آزادی کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ تہائی میں اٹھ بیٹھ سکے، بات چیت کر سکے، اس واجب کی ادائیگی کے لیے یہ کافی ہو گا، اور چوہا تو ضرور علیحدہ ہونا چاہیے، کیوں کہ زیادہ تر آگ اسی چولہے سے بھڑکتی ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: ”عَلَى الزَّرْجَ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفَرَّدَةٍ لَيْسَ

فِيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ ... وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِيْ بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَلَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا ؛ لَانَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ ” . (۳۲۱/۲)

مگر افسوس! آج ہمارا معاشرہ بہو کے اس حق کو تسلیم کرنے پر راضی ہی نہیں، ساس اپنی بہو کو بیٹی نہیں۔ بلکہ نوکرانی سمجھتی ہے، باندیوں کی طرح اس سے خدمت لیتی ہے، حتیٰ کہ آج کل اپنے بیٹیوں کی شادیوں سے پہلے ہی ماٹیں اپنے گھروں میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ:

”کیا کروں! گھر کا کام کاج بہت بڑھ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، سوچتی ہوں بڑے لڑکے کی شادی کر دوں، تاکہ کام کاج کا مسئلہ حل ہو جائے۔“

اب شادی کے بعد جب بہو گھر آتی ہے، تو پلان کے مطابق، گھر کے تمام بزرگوں، خوردوں (چھوٹوں) اور نندوں وغیرہ کی خدمت اور حکم کی بجا آوری اس کے ذمہ فرض ہو جاتی ہے، اگر کسی کی خدمت میں کوئی کوتا ہی ہوتی، یا حکم کی بجا آوری میں محض تاخیر ہوتی ہے، تو بے چاری بہو کی جان پر بن آتی ہے، اور اسے ایسی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ اگر یہی تکلیفیں خود ساس کی بیٹی، بھائیوں کی بہن کو اس کے سرال میں دی جاتیں، تو آسمان سر پر اٹھالیا جاتا، سرال والوں کو ظالم، جاہل اور شریعتِ اسلامیہ کا دشمن قرار دیا جاتا، لیکن یہی کام خود کر رہے ہیں، تو ظلم کے باوجود منصف، جہالت کے باوجود دانش مندر، اور حکم شرعی کی خلاف ورزی کے باوجود بھی حامی شریعت بنے ہوئے ہیں۔

انصاف کا یہی دوہرا معیار گھروں میں اختلاف و انتشار، اور جھگڑے سے فساد کی آگ بھڑکائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے نکاح کے بعد سکون حاصل نہیں ہوتا، ادھر شوہر، جس کی وجہ سے یہ پرانے کی لڑکی بہو بنا کر گھر میں لاٹی گئی، اُس کی حالت بھی اپنی ماں سے مختلف نہیں ہوتی، وہ اسی کو بڑی سعادت مندی سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کے ماں کی ملکومہ اور تابعہ بن کر رہے ہے، اور اگر وہ اس کے ماں کے حکم کی بجا آؤ ری نہیں کرتی، یا خدمت میں کوئی کوتا ہی کرتی ہے، تو وہ اس پر بڑے مظالم ڈھاتا ہے، اسے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اور ہمہ وقت اسے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں رکھتا ہے، جب کہ یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ بیوی پر اپنے ساس و خسر، اور دیور و نند کی خدمت فرض نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر نہیں کرتی، تو اس پر اس کا موآخذہ و گرفت شرعاً جائز نہیں، کیوں کہ فقہ کا قاعدہ ہے: ”تَرْكُ الْإِحْسَانِ لَا يَكُونُ إِسَاءَةً“ – کہ ترک احسان سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ اگر بہو کے علاوہ کوئی دوسری قریبی عورت خدمت کرنے والی نہ ہو، نیز ماں مجبور ہو، خود سے وہ کام انجام دینے کے لائق نہ ہو، تو ایسی مجبوری کی صورت میں بہو پر ساس کی خدمت اخلاقی طور پر واجب ہوگی۔ (مخصر از تجویز اسلام فقہ اکیڈمی انڈیا: ۲۰۱۱ء)

لہذا شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، وہ بھی سراسر ظلم ہے، ہاں! لڑکوں پر اپنے ماں باپ کی خدمت واجب ہے، اگر وہ سعادت مند ہیں، تو خود خدمت کریں، یا خدمت کے لیے نوکر انیاں رکھیں، مگر بیوی کو پورے گھر کی

خدمت پر مجبور نہ کریں، کیوں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔

**محترم ساجد صاحب!** آپ کی تمام پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کرو، اس سے آپ کو بھی سکون ملے گا، آپ کی بیوی بھی چین سے رہے گی، اور والدین و بہنوں کا ٹینشن بھی ختم ہو گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے اس عمل سے والدین ناراض ہوں گے، معاشرے میں آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں ہوں گی، ملامت کی جائے گی، بدنام کیا جائے گا، ”جورو کے غلام“، جیسی بھپتیاں آپ پر کسی جائیں گی، یا آپ والدین کی نافرمان اولاد کھلاوے گے، کیوں کہ الگ رہ کر، راحت کا ملنا اور نیک نامی کا حاصل ہونا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، مگر راحت نیک نامی سے زیادہ ضروری ہے۔ رہی والدین کی خدمت! تو جو کچھ ہو سکے اپنی کمائی سے والدین کی خدمت کرتے رہے، اسی طرح جائز اور نیک کاموں میں اُن کی اطاعت و فرماں برداری کی جائے۔ البته والدین کے ہر ایسے حکم کی بجا آوری شرعاً درست نہیں ہے، جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، کیوں کہ حدیث شریف میں ہے: ”**لَا طَاعَةٌ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ**“۔ لہذا بیوی کے مطالبے پر اُس کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کرنا، شوہر پر واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا معصیت ہے، اگر والدین اس معصیت کا حکم دیں، اور یہ کہیں کہ بیوی کو علیحدہ مکان مددے، تو اُن کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (تحفۃ زوجین: ص/۲۰)

حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تعویذ لینے آیا کہ اُس کی بہو اُس کی اطاعت نہیں کرتی، حضرت نے فرمایا:

”اس کا تعویذ یہی ہے کہ اس کو اور اپنے لڑکے کو جدا کر دو، پھر نہایت درجہ مطبع

ہو جائے گی۔” (یعنی میاں بیوی کو اپنے سے علیحدہ مکان دے کر اُس میں رکھو) اسی طرح ایک ہندو نے اپنے بیٹے اور بہو کی شکایت کی، وہ بہت تنگ کرتے ہیں، بہو کام کر کے نہیں دیتی، بیٹا بھی پریشان کرتا ہے، حضرت نے اس سے فرمایا: ”اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو الگ کر دو، وہ الگ رہیں اور تم الگ، بس سب ٹھیک ہو جائیں گے۔“

**خلاصہ کلام** یہ کہ نکاح کے بعد بہو کو اس کے مطالبے پر علیحدہ مکان دے دینا چاہیے، ساتھ رہنے پر اصرار کرنا بہت سی خرابیوں اور جھگڑے فساد کی جڑ ہے، جس سے نہ صرف بہو بیٹے، بلکہ پورے خانوادہ کا چین و سکون تباہ و بر باد ہو جاتا ہے، اور آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش میرا نکاح ہی نہ ہوتا، کہ نکاح کے بعد موجودہ سکون بھی تباہ و بر باد اور غارت ہو گیا، جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔

**ساجد:** شکریہ مفتی صاحب!

آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر، نہ صرف اسلامی تعلیمات سے متعلق میرے شکوک و شبہات کو دور فرمایا، بلکہ ہمارے پورے خانوادہ کے لیے چین و سکون کی راہ بھی متعین کر دی، ان شاء اللہ! اب ہم اسی راہ پر چل کر زندگی کے حقیقی چین و سکون سے لطف اندوز ہونے کی از سر نو کوشش کریں گے۔

والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!



يَا أَيُّهَا الْمُنِيبُونَ إِذْنُوا مَا تَقْوُمُ  
 اللَّهُ وَحْدَهُ مَا يَعْلَمُ مِنَ الرَّبُّوْنَ إِنَّ  
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا  
 فَأَذْنُوا بِرَبِّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 (القرآن)

(۷)

**مُکالَمَه بِابْتِ**

**سُودَ کی تِبَاہ کاریاں**

**کردار:**

ترجمان: محمد ساجد

تاجر: حقانی میاں

کاشت کار: ظہور پٹیل

پروفیسر: حامد میاں

عام آدمی: شوکت خان

عام آدمی: رفیق پڑھان

گاؤں کا امام: مولوی محمود

مفکی مجاهد الاسلام صاحب

## مقدمہ

**ترجمان :** محترم حضرات! سود کھانا، سود دینا، سودی حساب لکھنا، سودی شہادت دینا، سودی معاملات کرنا، سودی اسکیموں میں شرکت کرنا، اور ان سے فائدہ اٹھانا، سب قرآن و حدیث اور عقلِ انسانی کی روشنی میں حرام ہیں، اور اس حرام کا ارتکاب، اخلاقی، معاشی اور تمدنی نقصانات کا سبب، اور قوموں کی تباہی و بربادی کا موجب ہے۔

بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان بھی سودی لین اور سودی کاروبار میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اس عنوان پر طلبہ دار الافتاء ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائے کہ سود جیسی لعنت سے خود بھی بچیں گے، اور دوسروں کو بچانے کی فکر بھی فرمائیں گے۔

﴿قُوَا أَنْفَسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾ . (سورہ تحریم)

اس مکالے کے کردار میں.....؟

ایک تاجر حقانی میاں،  
کاشت کا نظہر پیل،  
پروفیسر حامد میاں،  
عام آدمی شوکت خان، اور فیق پٹھان،  
اور گاؤں کے امام مولوی محمود صاحب ہیں۔

ان سب کی ملاقات ایک چائے کی ہوٹل پر ہوتی ہے، چائے نوشی کے دوران ہر

کوئی ایک دوسرے کی خیریت اور احوال دریافت کرتا ہے، جس پر ہر کوئی اپنی خیریت اور احوال بیان کرتا ہے، جسے گاؤں کے امام صاحب مولوی محمود برڑی غور سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر اپنادینی تبصرہ فرماتے ہیں۔

تو لیجیے!..... سماعت فرمائیے!

**ظہور پٹیل** (حقانی میاں سے): کیا بھی حقانی میاں! خیریت سے ہیں؟

**حقانی میاں:** الحمد للہ! میں بہت ہی مزے میں ہوں، کاروبار بھی بڑے زوروں پر ہے، روزانہ ہزاروں کا ٹن آور ہو رہا ہے، مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ بندے نے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے، پچاس لاکھ روپے سینٹرل بینک سے لوں اٹھایا ہے، جس پر ہر ماہ سو دبھرنا پڑتا ہے، لیکن آمدنی اتنی ہے کہ اس سود میں بھری جانے والی رقم بہت معمولی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک نیا مکان تمام جدید سہولتوں سے آرائستہ تعمیر کیا، بڑے دھوم سے گھر بھرنی کی، تمام دوست و احباب کو دعوت بھی دی تھی، تمام ہی احباب دعوت کھا کر، مکان دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، سب ہی نے میرے تاجر انہ ذہن اور عقل مندی کی داد دی، اس سال میاں بیوی کے حج کافارم بھی بھر دیا ہے، دعا کرو نمبر نکل جائے، تاکہ بیت اللہ کی زیارت اور حضور ﷺ کے در پر حاضری بھی نصیب ہو جائے۔

**حقانی میاں** (ظہور پٹیل سے): آپ اپنی بھی تو کچھ سنائیے!

**ظہور پٹیل:** الحمد للہ! ویسے تو میں بھی مزے میں ہی ہوں، لیکن کچھ پریشانی تھی، اس سال کھیت میں کپاس، گنا وغیرہ لگانا تھا، جس کے لیے پانی کی

ضرورت ہے، ندی سے کھیت تک پائپ لائن کا خرچ تقریباً دولاٹھ روپے ہوتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے شاہ نواز پیل کو، کہ وہ عین وقت پر میرے کام آگئے، اور دولاٹھ روپے، دس روپے سیکڑا ماہانہ سود کے حساب سے قرض دے کر مجھے نوازا، اس طرح میرا کام بن گیا، پائپ لائن ہو گئی اور کپاس و گناہمی لگ گیا، کپاس میں بونڈے لگ گئے، اور گناہم راتنا ہو گیا ہے، اب دعا کرو کہ اللہ پاک اس فصل کو آفت سے بچالے، تاکہ یہ سودی قرض ادا ہو جائے، اور باقی رقم سے عید-بارات، بچوں کی شادی بیاہ کے کپڑے لئے اور دیگر ضرورتیں پوری ہو جائیں۔

### شوکت خان (پروفیسر حامد سے):

جی پروفیسر حامد صاحب! آپ کا کیا حال ہے؟

**حامد میاں:** اللہ کا کرم ہے!..... میں خوش حال ہوں، ہر ماہ ۲۵ رہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، جس سے گھر کے تمام اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، تمہاری بھابی کی یہ خواہش تھی کہ گھر میں کوئی چھوٹی مولیٰ فور و ہیلر گاڑی ہوتی، تو اچھا ہوتا، تاکہ عزیز واقارب کی خوشی و غمی میں شرکت اور چھٹی کے دنوں میں گھومنے پھرنے، سیر و سیاحت کے کام آتی۔ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس نے ادھرا پنی خواہش کا اظہار کیا، اور دوسرے ہی دن میں نے ”لوک مت“ اخبار میں اسٹیٹ بینک کا یہ اشتہار پڑھا:

”انتہائی کم شرح سود پر آپ اپنی گاڑی خرید سکتے ہیں،“

پھر کیا تھا، میں نے اُسی وقت اشتہار میں موجود موبائل نمبر ملایا، اور تمام معلومات حاصل کی، براہ راست رابطہ کر کے ضروری کاغذات تیار کیے، اور الحمد للہ! اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو بالکل نئی پیٹی پیک ”فورچونز“ گاڑی شوروم سے اٹھا لی، اس طرح تمہاری بھابی کی خواہش پوری ہو گئی، اور اب وہ بڑی خوش ہیں۔

**حامد مبیان** (شوکت خان سے): آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟

**شوکت خان:** اپنا کیا پوچھنے کا، چاروں انگلیاں گھٹی میں ہیں، گھٹی میں!! آج کل مارکیٹ میں ایک نئی کمپنی وجود میں آئی ہے، اس میں کچھ نہیں کرنے کا، نِستا (صرف) پانچ سورو پئے دے کر، اُس کا ممبر بن جانے کا، ممبر بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی جو چیزیں مارکیٹ میں، مثلاً: پچاس روپے میں ملتی ہیں، وہ اس ممبر کو چالیس روپے میں ملیں گی، اور اس ممبر شخص پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اور پانچ ممبر تیار کرے، اگر وہ پانچ ممبر تیار کرتا ہے، تو اسے اس ممبر سازی پر ایک ہزار روپے ملتے ہیں، اور جب اس کے بنائے ہوئے یہ پانچ ممبر الگ سے اپنے پانچ پانچ ممبر بناتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی کمپنی پہلے والے شخص کو دیتی ہے، اس طرح یہ سلسلہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اُس کا فائدہ پہلے والے شخص کو بھی ہوتا رہے گا۔

میں نے الحمد للہ! کمپنی کو پانچ سورو پئے دے کر، اُس کی ممبر شپ حاصل کر لی ہے، اور آگے تین ممبر بنانے کا ہوں، وہ بھی اپنے ممبر بنارہے ہیں، اس کا فائدہ بھی مجھ کو ہو رہا ہے، اور مزید فائدے کی آویشنا (آمید) ہے۔ (چلتے چلتے.....) اور ہاں! سنو! ..... دو ممبرا بھی باقی ہیں، اگر تمہارے میں سے کسی کو ممبر بننے کا ہے،

توبولو! ابھی تمہارے نام لکھ لیتا ہوں، تاکہ تم بھی اس کمپنی کے ممبر بن کر، آگے اور ممبر بنا شروع کر دو، اور ہاں! بعد میں مت بولنا کہ خبر نہیں تھی، تمہارے کانوں پے میں نے یہ بات ڈال دی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ؛ شادی کے موقع پر میرے سرے نے کچھ نقد رقم ہدیہ (سپریم بھیٹ) میں دی تھی، میں نے سوچا ان پیسوں کو گھر میں رکھنے سے یہ ڈبل ہونے والے تو ہیں نہیں، اس لیے وہ پسیے میں نے پانچ سال کے لیے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیا، چار سال ہو گئے، یہ پانچواں سال ہے، وہ جمع کرائی ہوئی رقم اب ڈبل ہو کے میرے کو ملے گی۔

**حامد میاں** (رفیق پٹھان سے): ارے پٹھان صاحب!

آپ بھی تو خیریت سے ہیں نا؟

**رفیق پٹھان** : میں آپ تمام لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، کہ آپ لوگ کس طرح ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ کوئی ترقی نہیں، ترقی وہ ہے جسے میں نے اپنارکھا ہے، ترقی کا ایسا راستہ کہ پھٹاک سے آدمی کے پاس پسیے آ جاتے ہیں، اور ایک ”روڈ پتی“، آدمی دیکھتے ہی دیکھتے ”کروڑ پتی“ بن جاتا ہے، ذرا بھی مغز ماری نہیں کرنا پڑتی۔

سب یک زبان ہو کر پوچھنے لگے: وہ کیا؟؟؟؟

**رفیق پٹھان** : میری پرانی عادت ہے کہ چلتے پھرتے پانچ پچاس روپے کے لاٹری ٹلکٹ خرید لیتا ہوں، پھر اخبار میں اپنی لاٹری نمبر دیکھتا رہتا

ہوں، کہ میرا نمبر نکلا یا نہیں؟.....ابھی پندرہ دن پہلے کی بات ہے، میں اخبار دیکھ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے نام ایک کروڑ کی لاٹری لگ گئی، پھر کیا تھا،.....پورے خاندان میں خوشیاں منائی گئیں، دوستوں نے میری دعوییں کیں، اور میں نے انجینئر کو بلا کر ایک شاندار-جاندار بنگلے کا پلان بنانے کا آرڈر کیا، شوروم سے رابطہ کر کے نئی ”انو وا کار“ بنگ کروالی، پانچ دس روز میں وہ بھی آنے والی ہے۔.....دوستوں نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی رقم بلا کسی محنت و مشقت کے دیدی، تو شکرانے کے طور پر عمرہ کرو، الحمد للہ! ٹور والوں سے بات چیت بھی ہو گئی ہے، اور ان شاء اللہ ۱۵ جولائی.....کو گھر کے پورے پانچ افراد کے ساتھ عمرہ کے لیے روانگی ہو گی۔

دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر میں سلامتی عطا فرمائے!

**(رفیق پٹھان بڑے فخر یہ انداز میں کالراونچی کرتے ہوئے، شانے اُچکاتے ہوئے ظہور پیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے):**  
کیا پیل! کیسی رہی پھرا پنی لاٹری؟ اس کو بولتے ہیں دماغ! پٹھان کا دماغ!  
اُپن پٹھان کا بچہ جو ٹھہرا.....!

(گاؤں کے امام مولوی محمود صاحب، جو بازو دوالے ٹیبل پر بیٹھے چائے کا مزہ لیتے ہوئے، کان لگا کر غور سے، ان سب کی باتیں سن رہے تھے، جب ان لوگوں کی گپشپ ختم ہوئی..... تو مولوی جی فوراً بول اٹھے):

**مولوی محمود:** بھائیو! میں نے آپ لوگوں کی تمام باتیں سنی، تو

بڑا افسوس ہوا، کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے سود، جوئے، سٹے اور لاٹری جیسے حرام کاموں میں بنتلا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام نے ہم کو سود، جوئے، سٹے اور ہر غلط طریقے سے مال کمانے اور کھانے سے منع کیا ہے۔

**حقانی میاں :** مولوی صاحب! آپ نے مولوی ہیں، مفتی نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم سود اور جوئے میں بنتلا ہیں، کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تجارت کو ترقی دینے اور کاشت کاری میں جدید کاری کے لیے، سودی قرض لینا، اسی طرح لوں پر گاڑی اٹھانا، اور ملٹی لیوں کمپنی کا ممبر بننا، بنانا، لاٹری کے ٹکٹ خریدنا، شرعاً ناجائز و حرام ہیں؟

**مولوی محمود :** ہاں! ہاں! میں نے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا - جونہ صرف مہاراشٹر بلکہ ملک کا ایک عظیم دینی ادارہ ہے۔ اُس کے دارالافتاء سے شائع ایک پمفلٹ، جس کا عنوان ”سود سے بچو اور بچاؤ“ ہے، اس میں پڑھا تھا۔

**حقانی میاں :** نہیں! نہیں! میں کسی اشتہار و پمفلٹ پر اعتبار نہیں کرتا۔

**مولوی محمود :** اگر آپ کو پمفلٹ و اشتہار پر اعتبار نہیں، تو کل ہم دارالافتاء سے رجوع کرتے ہیں، کل سنڈے (اتوار) بھی ہے، پروفیسر صاحب کے کالج کی چھٹی ہے، آپ کی دکان بھی بند رہے گی، ظہور پیل، شوکت خان اور پٹھان صاحب تو فرصت علی خان ہیں، ویسے بھی چائے خانے پر ہی دن کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں، کل ہی اپنے دارالافتاء پہنچ کر خلاصہ کر لیں گے۔

(اتوار کے دن یہ تمام حضرات دارالافتاء پہنچتے ہیں مفتی صاحب تشریف فرمائیں!)

**سب ایک ساتھ: السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!**

**مفتشی صاحب:** علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

فرمائیے جناب مولانا! کیا حال ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہیں آج فجر کی نماز میں کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوئی، جو تمام مصلیوں کو لے کر حاضر ہوئے؟

**مولوی محمود:** نہیں! مفتشی صاحب، بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات ہمارے مصلیٰ ہیں۔ (سب کا تعارف کرتے ہوئے)

یہ ہیں حقانی میاں،..... شہر کے بڑے تاجر و میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اپنی تجارت کو فروع و ترقی دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے ۱۵۰ لاکھ روپے سودی قرض لیا ہے۔

یہ دوسرے صاحب ظہور پیل ہیں،..... ان کی اپنی ایک زمین ہے، جس میں کاشت کی جدید کاری کے لیے انہوں نے ایک صاحب سے دو لاکھ روپیہ سودی قرض لیا ہوا ہے۔

اور یہ تیسرا صاحب ”الفلاح ہائی اسکول“ کے سینئر پروفیسر ہیں،..... انہوں نے بینک لوں پر گاڑی نکالی ہے۔

اور یہ چوتھے صاحب شوکت خان ہیں،..... جو ملٹی لیوں مارکیٹنگ کے ممبر ہیں، اور اُس کی ممبر سازی کا کام کرتے ہیں۔

اور یہ ہیں پھر ان صاحب،..... جن کے نام کچھ روز پہلے ہی ایک کروڑ کی لاٹری گلی ہے۔

(مولوی محمود اپنی بات جاری رکھتے ہوئے):

میں نے ان حضرات سے کہا کہ آپ لوگ سود اور جوئے جیسے ناجائز و حرام کام میں بتلا ہوں، تو انہوں نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے ان تمام کو لے کر آپ دامت بر کا تم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اب آپ انہیں بتائیئے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں، آیا وہ شرعاً ناجائز و حرام ہیں؟ یا نہیں؟

### مفتشی صاحب:

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد !

محترم حضرات !

اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، اور حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے، جو احکامِ اسلام کا پابند ہو، اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ جان لے کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ آیا وہ کام جائز ہے یا ناجائز؟ جیسا کہ فقہ کا قاعدہ ہے:

”لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَوْ يَفْعَلَ فِعْلًا إِلَّا بَعْدَ مَعْرَفَةِ حُكْمِ

اللَّهِ فِيهِ“ . (موسوعۃ قواعد الفقہیۃ: ۸/۱۵)

آپ حضرات کو چاہیے تھا کہ پہلے حکمِ خداوندی کو معلوم کرتے، پھر کوئی قدم اٹھاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور گناہ گار ہوئے! کیوں کہ سود یعنی اصل قرضہ پر زیادتی، یا بلا معاوضہ مال، مال پر زیادتی، خواہ یہ کم ہو یا زیادہ۔ (تتویر مع الدر

والرد: ۷/۳۹۸، روح المعانی: ۳/۶۷، مکتبہ زکریا) اور جوا؛ یعنی ملک کو خطرے پر معلق

کرنا، درآں حالانکہ دونوں جانب میں مال ہو، شرعاً ناجائز و حرام ہے۔

(مجھم لغۃ القہاء: ص/۳۶۹، شامی: ۵۷۷)

اللَّهُرَبُ الْعِزَّةُ كافرمان ہے:

﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبْوَا﴾ . (سورہ بقرہ: ۲۷۵)

”اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ .

”اے ایمان والو! سود بڑھا چڑھا کرمت کھاؤ۔“

دوسری جگہ فرمایا گیا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْوَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ . ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈروا اور اگر ایمان رکھتے ہو، تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ (سورہ بقرہ: ۲۷۸)

علامہ عبدالمajد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(اس آیت میں اللہ رب العزت ہم سب کو مخاطب بنائے کر فرمائے ہے ہیں کہ) اگر اس حکم، یعنی حرمت سود پر عمل نہ کرو نگے، تو تم سے با غیوں اور مردوں کی طرح اٹائی کی جائے گی، اتنی سخت و عید قرآن مجید میں کسی دوسری معصیت و نافرمانی کے لیے نہیں آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے جو منقول

ہے کہ ”سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی“، وہ اسی قرآنی وعدہ کا قدرتی نتیجہ ہے، جب جسمانی بیماریوں کا یہ حال ہے کہ کسی مرض کو طبیب اگر سخت مرض سے مشابہ پاتا ہے، تو احتیاطاً علاج اس سخت تر مرض کا شروع کر دیتا ہے، تو جو مسلمان تقویٰ کا ادنیٰ درجہ بھی رکھتے ہیں، ان پر بھی یہی لازم ہے کہ نہ صرف کھلے ہوئے سود سے بچپیں، بلکہ ایسی مالی و کاروباری صورتوں سے بھی احتیاطاً بچپتے رہیں، جن کا سودی ہونا مشتبہ ہے۔ (تفیر ماجدی)

تیسرا جگہ ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ﴾ . ”وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے ہو نگے قیامت میں قبروں سے، جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو شیطان خبطی بنادے لپٹ کر۔“ (سورہ بقرہ: ۲۷۵)

اصل منظر تو یہ قیامت کے دن کا ہے کہ آخرت میں اپنی قبروں سے اٹھنے پر، یہ سود خور سیدھے کھڑے تک نہ ہو سکیں گے، کھڑے ہو نگے بھی تو متوالوں، خبطیوں، دیوانوں کی طرح گرتے پڑتے لڑ کھڑاتے ہوئے، لیکن اُس کا ایک ہلکا سارنگ اسی دنیا، ہی میں نظر آ جاتا ہے، مہا جن، سا ہو کار جورو پیہ کے پیچھے دیوانہ باؤلا رہتا ہے، واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے اُس کے جن یا بھوت چمٹ گیا ہے، اور اُٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جا گتے اُس پر سود یا بیان، ہی سوار رہتا ہے۔ اور جس کی حرص و طمع کی پیاس دنیا میں اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ لازم ہے کہ اس کا حشر بھی اسی مخبوط، جنون زده حالت کے ساتھ ہو۔ اہل کشف اور محققین کا بیان

ہے کہ حشر میں انسان اسی صورت کے ساتھ اٹھے گا، جس قسم کی سیرت اور خصلتیں دنیا میں اس پر غالب رہی ہوں گی۔ (تفسیر ماجدی)

چوتھی جگہ ارشاد ہے: ﴿يَمْحُقُ اللَّهُ الرَّبُوا وَيُرِبِّ الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾۔ ”مٹادیتا ہے اللہ سود کو اور بڑھادیتا ہے صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی کفر کرنے، گناہ کا کام کرنے والے کو۔“ (سورہ بقرہ: ۲۶)

(اس آیت میں سود اور صدقہ کا موازنہ ہے کہ) سود میں برکت و خیریت برائے نام بھی نظر نہ آئے گی۔ اور صدقات کا اجر بے حساب ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا ظہور کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہی رہتا ہے، سود خوار قوموں کا انجام بارہا آپس کی خون ریزی اور تباہی و بربادی ہی پر ہوا ہے، اور افراد میں بھی مشاہدہ ہے کہ سود خوری کی عادت بنیوں، مہاجنوں کے دل میں روپیہ کو فی نفسہ محظوظ بنا دیتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سود خور، زرود ولت سے دنیوی لطف بھی نہیں اٹھا پاتا، اس کے مقابل صدقہ کی برکتیں، ملی غم خواری و ہم دردی، ایک دوسرے کی مشارکت و معاونت قوم اور افراد دونوں میں مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔ بینکوں کے آئے دن ٹوٹنے، مہاجنوں اور بنیوں کے دیوالہ نکلتے رہنے، اور پھر اس سے ہزاروں گھروں کی تباہی و بربادی کس نے نہیں دیکھی ہے؟ معاشرہ کی اس ابتی کاراز بھی سودی کا رو بار کی تزویج ہے۔ (تفسیر ماجدی)

نیز جوئے کے متعلق ارشاد باری ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

**تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾**. ”اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانسے تو بس نزی گندی

باتیں ہیں، شیطان کے کام، سواس سے بچے رہو، تاکہ فلاح پاؤ۔“ (سورہ مائدہ: ۹۰)

شراب نوشی اور قمار بازی کی دنیوی مضرتوں اور اخلاقی قباحتوں میں سب سے بڑی اور کلیدی مضرت؛ خانہ جنگی کی طرف قرآنِ کریم نے اشارہ کر دیا، شراب و قمار دونوں کے مضر اثرات شر و فساد کی شکل میں روزمرہ کے مشاہدے ہیں۔

”جاہلیت عرب“ کے مہذب باشندے ان دونوں بلاو میں بری طرح بتلا تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے، آج ”جاہلیت فرہنگ“ کی مہذب آبادی پر بھی دونوں بلائیں بری طرح مسلط ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

یہ سود اور جوئے کی حرمت سے متعلق صاف اور صریح قرآنی آیات تھیں۔

اب آئیے! پیارے آقا، محمد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو بھی سن لیجیے:

۱- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سودی تحریر یا حساب لکھنے والے پر، اور سودی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔“ (صحیح مسلم)

۲- حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”سود کے وبال تہتر قسم کے ہیں، ان میں سب سے کم ترقیتی ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔“ (بیہقی، مشکوۃ المصالح: ص/ ۲۳۶، ۲۳۵)

۳۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”سود کا ایک درہم جس کو آدمی حاصل کرے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں  
تینتیس (۳۳) مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔“

(طبرانی فی الکبیر، مشکوٰۃ المصالح: ص/۲۲۵، ۲۲۶)

۴۔ حضرت عمر وابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”جس قوم میں سود عام ہو جائے، وہ قوم یقیناً قحط سالی میں گرفتار ہو جاتی ہے،  
اور جس قوم میں رشت پھیل جائے وہ مرعوبیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔“ (منhadīr)

۵۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ:

”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو ان میں ربوا یعنی  
سودی کا رو بار پھیل جاتا ہے۔“ (رواہ الدیلمی فی مندا الفردوس)

اب تک تو آپ قرآن و حدیث سے سود اور جوئے کی حرمت سن رہے تھے، اب  
آئیے! ذرا عقل کی روشنی میں بھی سود اور جوئے کی حرمت کو سمجھ لیں:

کسی چیز میں نفع و قتی اور عارضی ہو، اور نقصان اُس کا دامنی ہو، تو اسے کوئی عقل  
مند مفید نہیں کہتا، ٹھیک اسی طرح اگر کسی چیز کا نفع شخصی اور انفرادی ہو، اور اس کا  
نقصان پوری جماعت کو پہنچتا ہو، تو اسے بھی کوئی مفید نہیں کہتا، مسئلہ سود پر غور  
کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سودخوروں کے وقت نفع کے مقابلے میں،

اس کا اخلاقی نقصان بہت زیادہ ہے، اس درجہ کہ انہیں انسانیت ہی سے نکال دیتا ہے، اور ان کے اس وقتی نفع کی وجہ سے پوری قوم کو عظیم نقصان اور خطرناک معاشی بحران کا شکار ہونا پڑتا ہے۔

مسئلہ سود آج پوری انسانیت کے لیے تباہی و بر بادی کا سبب بنتا جا رہا ہے، اور لوگ سودی کاروبار کو معاشی مسئلہ کا حل، اور معاشیات میں اس کو ریڑھ کی ہڈی قرار دے رہے ہیں، جب کہ یہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں، بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والا ایک خطرناک کیڑا ہے، جو اس کو کھا رہا ہے۔

نیز ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سود سے:

- (۱) اخلاقی و روحانی گراٹ، خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۲) سماج اور معاشرہ کا عدم استحکام، یعنی آپس میں محبت کی بجائے باہمی بعض، حسد، بے دردی، بے تعلقی، انتشار، منافرت اور پرا گندگی جنم لیتی ہے۔
- (۳) قوم و ملت کے وہ کام جو انتہائی ضروری اور مفید ہوتے ہیں، شرح سود کے برابر باعثِ نفع نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ملک کے تمام مالی وسائل ان کاموں میں صرف کیے جاتے ہیں، جو بازار کی شرح سود کے برابر نفع بخش ہوتے ہیں، سود خور کو کاروبار کے نفع و نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ محض اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے یہ اندیشہ لائق ہوتا ہے کہ کاروبار مندی کا شکار ہونے جا رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپناروپیہ کھینچنے کی فکر کرتا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری کی مندی انتہائی تباہ کن صورت اختیار

کرجاتی ہے، اور پورا عالم کساد بازاری کا شکار ہو جاتا ہے۔

(جبیسا کہ آج کی عالمی معاشرت کی کساد بازاری اس پر شاہد ہے، اور ہزاروں، لاکھوں افراد خود کشی کرنے پر مجبور ہو گئے، اور بے شمار ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جب تک سود کی لعنت سے دنیا کو پاک نہیں کیا جاتا، دنیا اس طرح کے بحران کا شکار ہوتی رہے گی۔)

### **حقانی مبیان (درمیان میں اعتراض کرتے ہوئے):**

محترم مفتی صاحب! آپ نے قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں سود اور جوئے کی حرمت کو اتنے اچھے انداز سے سمجھایا، کہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آگئی، اور اپنے گناہ گار ہونے کا احساس بھی ہو چلا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں سودی کاروبار و معاملات کا دور دورہ ہے، تو ایک مسلمان کس طرح اپنے دامن کو سودی لین دین سے بچا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس سے بچنے کے لیے کوئی متبادل صورت بھی ہے؟

**مفتی صاحب:** ہاں! ہاں! کیوں نہیں؛ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سود و انظریست سے بچنے کے کئی طریقے بتائے ہیں: (مفتی صاحب تاج حلقانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے): حقانی صاحب! آپ اپنی تجارت کو فروع دینے کے لیے مشارکت (Partnership) کو اپناسکتے ہیں۔

**مشارکت** کا طریقہ کاریہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کسی سے کوئی قرض لیں، تو اسے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنائیے، اور نفع کا فیصد متعین

کیجیے، اگر کاروبار میں نقصان ہو، تو آپ کا پارٹنر بھی اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان میں آپ کا شریک ہو گا، مثلاً کاروبار میں آپ کا سرمایہ ۷۰۰ روپے ہوں اور آپ کے پارٹنر کا ۳۰۰ روپے، تو نقصان کی صورت میں آپ کا نقصان ۷۰ روپے فی صد ہو گا، اور آپ کے پارٹنر کا ۳۰ روپے فی صد۔ شرکت کی اس صورت میں کسی ایک فریق کے لیے نفع کی ایک خاص مقدار متعین کرنا، مثلاً یہ شرط لگانا کہ مجھے ہر ماہ ۱۰۰ روپے نفع ملنا ضروری ہے، درست نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تجارت کی صلاحیتیں تو ہیں، مگر سرمایہ نہیں، تو وہ مضاربہ (Sleeping partnership) کی صورت کو اپنال سکتا ہے۔

**مضاربہ** کا طریقہ کاریہ ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہو، اور دوسرے شخص کی محنت، اور نفع دونوں کی باہمی رضامندی سے طے کیا جائے، اس صورت میں کاروبار میں نفع ہو، تو طے شدہ معاملہ کے مطابق فریقین میں تقسیم ہو گا، اور اگر نقصان ہو، تو پہلے اس کی تلافی کاروبار میں ہونے والے نفع سے کی جائے گی، اگر نفع اور نقصان دونوں برابر ہیں، تو فریقین میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نقصان کے نفع سے بڑھ جانے کی صورت میں یہ نقصان صرف اور صرف سرمایہ لگانے والے کا ہو گا۔

**(مفہی صاحب پیل** ظہور صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے):  
پیل صاحب! آپ اپنی زراعت کو ترقی دینے کے لیے مزارع (Crop sharing) کی صورت کو اپنال سکتے ہیں۔

مزارعت کا طریقہ کاریہ ہے کہ:

(۱) آپ بٹائی دار سے یہ کہیں کہ میں تم کو اپنی زمین بٹائی پر دیتا ہوں، نجح اور کاشت کے آلات میرے ہونگے، اور آپ کی طرف سے کاشت کا عمل۔

(۲) یا یوں کہیں کہ زمین میری ہوگی، آلہ کاشت، نجح اور عمل آپ کا ہوگا۔

(۳) یا یوں کہیں کہ زمین اور نجح میرا ہوگا، عمل اور آلہ کاشت آپ کا، اور جو بھی پیداوار ہوگی اس میں میرا تناسب، مثلاً: نصف، تہائی، چوتھائی وغیرہ اور باقی آپ کا ہوگا۔..... شرعاً بٹائی کی یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔

عام طور پر بٹائی داری میں بھی کسی ایک فریق کے لیے، پیداوار کی ایک مقدار، یا کھیت کے کسی ایک حصہ کی پیداوار متعین کر دی جاتی ہے، مثلاً: بٹائی دار مالک زمین کو ایک کوئی نظر نہیں دے گا، خواہ پیداوار کچھ بھی ہو، یا کھیت کے اس حصہ کی پیداوار مالک زمین کے لیے ہوگی، خواہ دوسرے حصوں کی پیداوار کچھ بھی ہو، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔

**(مفتشی صاحب پروفیسر حامد میاں کی طرف متوجہ ہو کر):**

حامد میاں! آپ گاڑی خریدنے کے لیے مرا بھے (Resale with a stated profit) کی صورت اپنا سکتے ہیں۔

مُرانَجہ کا طریقہ کاریہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور اسے خریدنے کے لیے اُس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو جس شخص کے پاس پیسہ ہے، وہ اُس چیز کو نقد خرید کر، ضرورت مند شخص کو نفع کے ساتھ اُدھار نجح دے، شرعاً یہ

طریقہ جائز ہے۔.....اگر بینکوں کے موجودہ نظام میں یہ صورت اپنائی جاتی ہے، تو جہاں مسلمان سودی معاملہ سے بچیں گے، وہیں بینک بھی سود کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔

### (مفتشی صاحب شوکت خان سے مخاطب ہو کر):

خان صاحب! ملٹی لیول کمپنی، ممبر سازی پر آپ کو جو کمیشن دیتی ہے، یہ کمیشن صرف ان خریداروں تک محدود نہیں رہتا، جن کو آپ نے خریدار بنایا ہے، بلکہ آپ کے ذریعے بنے ہوئے خریداروں (مبروں) سے آگے، جو بھی خریدار اور ممبر تیار ہوں گے، ان کی خریداری پر بھی آپ کو کمیشن ملتا رہے گا، اور مرحلہ وار یہ سلسلہ بہت آگے تک چلا جائے گا، جب کہ شریعتِ اسلامیہ نے سرمایہ سے منافع حاصل کرنے کا جواصول رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ سرمایہ کے ساتھ محنت ہو، محض زر سے زر حاصل نہ کیا جائے، اس لیے کہ زر سے زر حاصل کرنا غیر فطری عمل ہے، وہ اس طرح کہ زر میں فطرۃ خود بخود بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا، اس اصول کے اعتبار سے آپ جس اسکیم سے جڑے ہوئے ہیں، شرعاً وہ جائز نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ اسکیم، بلکہ اس طرح کی دیگر اسکیمیں مثلًا آرسی ایم، این مارت، نیٹ سرفنگ وغیرہ، جن کے صرف نام بدلتے ہوئے ہیں، اور طریقہ کاروہی ہے جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ہے۔ شرعاً وہ بھی درست نہیں ہیں۔

### (مفتشی صاحب رفیق پٹھان کی طرف متوجہ ہو کر):

پٹھان صاحب! آپ کی لاطری لگنے کی وجہ سے آپ بڑے خوش ہیں، کہ اتنی

بڑی رقم کے آپ مالک بن گئے، لیکن یہ خوشی وقتی اور عارضی ہے، اور اس کی تباہ کاری دائی اور ابدی ہے، کیوں کہ جوئے اور لاٹری کے مضر اثرات شر و فساد کی شکل میں روزمرہ کے مشاہدے ہیں۔

اور جوئے کی لست میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیر واکابر اپنی دولت، سلطنت، عزت و ناموس تک گنوں بیٹھے ہیں۔

نیز اس طرح سے حاصل شدہ آمدنی شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، اور آپ کو پتہ ہے حرام غذا کس طرح انسان کی دنیا اور آخرت کو بر باد کر دیتی ہے؟ صرف ایک آیت اور حدیث آپ سن لیجیے:

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِّنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَمْ تُسْتَجِبْ لَهُ دَعْوَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، وَإِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ مِنَ الْحَرَامِ لَتُنْبَتُ اللَّحْمُ“.

”اگر کوئی آدمی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، تو چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو گوشت حرام مال سے پروش پاتا ہے، تو جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے، اور حرام کے ایک لقمہ سے بھی تو گوشت پیدا ہوتا ہے۔“ (کنز العمال: ۸/۳)

لہذا اب آپ کو چاہیے کہ یہ پوری رقم بلا نیت ثواب، صدقہ کر کے اس کے وباں سے اپنے آپ کو بچائیں!

(سب کی طرف سے ایک ترجمان مفتی صاحب کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے):  
 ہم تمام آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دے کر، نہ  
 صرف سودا اور جوئے کی حرمت سے آگاہ کیا، بلکہ اس سے بچنے کی متبادل صورتیں  
 بھی ہمیں بتلادیں۔ فجز اکم اللہ احسن الجزاء!

**مفتی صاحب:** اس میں شکر یہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارا فرض تھا، جو  
 ہم نے ادا کیا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ، اور اس کے مطابق عمل کی  
 توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

(سب بیک زبان ہو کر): آمین یا رب العالمین!  
 والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!



تَلَكَ بَهْوَتِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
وَمَن يَتَعَدَّ بَهْوَتِ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ  
**هُمُ الظَّالِمُونَ** ﴿٥﴾ - (القرآن)

## مجموع الضروريات خمسة :

**حفظ الدين ،**

**حفظ النفس ،**

**حفظ النسل ،**

**حفظ المال ،**

**حفظ العقل ،**

(۸)

## مکالمہ بابت

# سماج و معاشرے میں پہنچتے جرائم اور اُن کا انسداد

### (قسط اول)

**کرد اڑ:**

(۱) ترجمان / پیش کار،

(۲) پی ایس آئی (PSI)

(۳) وکیل استغاثہ (سرکاری وکیل)

(۴) وکیل دفاع ( مجرموں کا وکیل )

(۵) چیف جسٹس اول (مجاہدِ اسلام قاسمی)

(۶) چیف جسٹس ثانی (محمد تقی عثمانی)

## مقدمات کی نوعیت

- (۱) مرڈ رکیس، مقتول کے اولیاء قاتل کے خلاف،
- (۲) عصمت دری سے متاثرہ لڑکی کے باپ کی فریادِ زانی کے خلاف،
- (۳) مالک مکان چور کے خلاف،
- (۴) بوڑھے انسان کی شکایت ایک اُچکے اور لٹیرے کے خلاف، جس نے اس کی پینشون والی کمائی پر ہاتھ صاف کیا،
- (۵) پڑوسی کی رپورٹ شرابی کے خلاف،
- (۶) رشوت دینے والے ٹھیکیدار کی فریادِ رشوت خور آفیسر کے خلاف،

## تمہید

**ترجمان: محترم حضرات!**

ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، آج وہ مختلف جرائم کا گھوارہ بن چکا ہے، آئے دن قتل، چوری، ڈیکیتی، بدکاری اور رشوت ستانی وغیرہ کے واقعات اخباروں کی شہر خیال بن رہی ہیں، یہ وہ جرائم ہیں، جس نے معاشرے کے چین و سکون اور امن و امان کو غارت کر کے رکھ دیا، حکومت وقت ان جرائم کی روک تھام کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو چکی ہے، اور سخت قوانین بھی بنارہی ہے، مگر اس کے باوجود جرائم کا یہ سیلا ب تھمتا ہوا نہیں دکھائی دیتا، جو اس بات کا غماز ہے کہ ہمیں اس سیلا ب کو روکنے کے لیے مزید کچھ کر گزرنے کی ضرورت ہے۔

اسی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے، جامعہ کے شعبہ افتاء کے طلبہ آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کر رہے ہیں، تو آئیے! ہم اس مکالمے میں دی گئیں اسلامی تعلیمات کو دل کے کانوں سے سن کر، اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ جرائم کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی قوانین میں، اسلامی قوانین کس قدر ممتاز، اور قیامِ امن و امان کے ضامن ہیں۔

## مقدمہ (۱)

**مقتول کا باپ:** (سر پیٹتے ہوئے، حواس باختہ عالم میں ہاتھ میں ایک تصویر لیے، پی ایس آئی کے آفس میں داخل ہوتا ہے):

جناب پی ایس آئی صاحب! میرے اکلوتے، لاڈلے، ہم میاں بیوی کے بڑھاپے کے سہارے بیٹی کو، میرے دشمن نے بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دالا، اُس کا سرتن سے جدا کر کے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، وہ چیختا چلا تا، رحم و کرم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن اس بے رحم، سفاک اور ظالم کو اُس پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور قتل کے بعد مجھے بھی یہ دھمکی دی، کہ اگر تو نے میرے خلاف ایف آئی آر (F.I.R) درج کی، تو جو انجام تیرے بیٹی کا ہوا، وہی تیرا بھی ہو گا۔ پی ایس آئی صاحب! آپ اس ظالم سے مجھے بچائیئے، اور میرے بیٹی کے اس قاتل کو شرعی سزا دلائیئے۔

**پی ایس آئی :** آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنے محکمے کو آپ کی مضبوط سیکوریٹی کی ہدایات دیتے ہیں، اور عنقریب اس ظالم قاتل کو آپ تختہ دار پر لٹکتا ہوا دیکھیں گے۔

**مقتول کا باپ:** شکریہ صاحب!

میں آپ سے انصاف کی امید لے کر رخصت ہوتا ہوں۔ خدا حافظ!

OoOoOoOoOoO

## مقدمہ (۲)

**متاثرہ لڑکی کا باپ:** السلام علیکم! پی ایس آئی صاحب!

**پی ایس آئی :** و علیکم السلام و رحمۃ اللہ!

کہیے جناب! کیا بات ہے؟ اتنے حیران و پریشان نظر آرہے ہو؟ کیا کوئی حادثہ پیش آگیا ہے؟

**لڑکی کا باپ:** صاحب! میں تو اس دنیا میں منہ بتانے کے قابل بھی نہ رہا، گز شستہ کل ہمارے گھروالوں پر گویا مصیبت کا پھاڑٹوٹ پڑا، ایک طرف میری والدہ اور بیوی غم و اندوہ کا پیکر بن کر آنسو بہارہی ہیں، تو دوسری طرف میری بہن اور چھوٹی بیٹی ڈری اور سہمی ہوئیں نظر آرہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں اُس بدمعاش موالی سے کیسے انتقام لوں؟!

**پی ایس آئی:** ارے جناب! آخر آپ یہ تو بتائیئے کہ ہوا کیا؟ آپ اور آپ کے گھروالے غمگین اور سہمے ہوئے کیوں ہیں؟

**لڑکی کا باپ:** (ثرم کے مارے گردن جھکا کر بولتے ہوئے):

واقعہ یہ ہوا کہ ایک بدمعاش لڑکے نے میری بڑی بیٹی کا اغوا کر کے، اُس کی عزت لوٹ لی، ہمیں اُس وقت پتہ چلا جب چند لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ایک مشکوک گاڑی دیکھی، جس میں سے کسی لڑکی کی چیخ و پکار کی آواز آرہی تھی، ہم نے اُس کا پیچھا کیا، لیکن گاڑی کی رفتار تیز ہونے کے سبب وہ بدمعاش فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم اُس کی تلاش میں نکلے، تو اپنی بڑی

بیٹی کو، شہر کے باہر، چورا ہے سے قریب، ایک پُل کے پاس، نیم برہنہ حالت میں بے ہوش پڑا ہوا پایا، ہم اُسے ہسپتال لے آئے، ڈاکٹروں نے اُس کا ٹریپمنٹ کیا، اُسے ہوش آیا، تو اُس نے پوری رُوداد سنائی۔

**پی ایس آئی صاحب:** آپ ہماری مدد کیجئے، پہلی فرصت میں اُس نامعلوم بدمعاش کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دیجئے، اور جن جن لوگوں پر آپ کوشک ہے، اُن کا مکمل نام اور پتہ لکھوادیجئے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ذرائع بہت جلد خاطی مجرم کی گردن تک پہنچ کر، اُسے عدالت کے کٹھرے میں لاکھڑا کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اُسے اپنی اس بدکاری کی نہایت عبرت ناک سزا دی جائے گی۔

**لڑکی کا باپ:** ٹھیک ہے صاحب!

آپ کی ہدایت کے مطابق میں ایف آئی آر درج کرا دیتا ہوں، اور مشکوک و مشتبہ افراد کے مکمل نام و پتے بھی لکھوادیتا ہوں۔

(پیش کار رجسٹر اور قلم لے کر اس کے پاس ایف آئی آر درج کرنے کے لیے آتا ہے۔)

000000000

### مقدمہ (۳)

**مالک مکان:** السلام علیکم..... پی ایس آئی صاحب!

**پی ایس آئی:** و علیکم السلام و رحمة اللہ!

**مالک مکان:** صاحب جی! رات ہمارے گھر قیامت برپا ہوئی۔

**پی ایس آئی :** وہ کیسے؟ قیامت آنے میں تو ابھی دیر ہے، اور جب وہ

آئے گی، تو پوری دنیا پر آئے گی، کسی خاص فرد یا مکان پر نہیں۔

**مالک مکان:** صاحب! آپ میری بات اور میرے درد کو نہیں سمجھ سکے، قیامت اس طرح برپا ہو گئی، کہ - رات میں عشا کی نماز پڑھ کر گھر آیا، تمام گھر والے معمول کے مطابق سوچکے تھے، میں بھی جا کر سو گیا، صبح جب ہم سب لوگ نیند سے بیدار ہوئے، تو کیا دیکھا کہ تجویز والے کمرے کا دروازہ کھلا پڑا ہے، اندر گئے، تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، تجویز کالاک ٹوٹا ہوا تھا، اس میں موجود تمام کاغذات بکھرے ہوئے اور منتشر تھے، تجویز کے جس خانہ میں رقم اور زیورات رکھے تھے، اُسے کھول کر دیکھا، تو پتہ چلا کہ رقم اور زیورات غائب ہیں، ہائے اللہ! (ٹھنڈی آہ بھر کر) سب، بالکل بر باد ہو گیا، اگلے مہینے لڑکی کی شادی بھی طے ہو چکی ہے، اسی کے لیے زیورات بنانے کر رکھے تھے، جب سے لڑکی گھر میں پیدا ہوئی، تب سے ایک ایک پائی، محنت مزدوری کر کے اپنے پسینے کی کمائی جمع کی تھی، آج وہ پورا سرمایہ اس بے رحم چور کی نذر ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیے! میں اتنی ساری رقم اور زیورات اپنی لاڈلی کی شادی کے لیے کہاں سے لاوں؟ پی ایس آئی صاحب! آپ کو خدا کا واسطہ، آپ ان مجرموں کو پکڑ کر، یہ رقم اور زیورات ان سے حاصل کر کے، مجھے واپس دلا دیجئے، تاکہ میں اپنی لاڈلی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکوں، اور ان ظالموں کو ان کے جرم کی سخت سزا دلوائیے۔!

**پی ایس آئی :** دیکھئے بھائی صاحب! آپ دھیرج اور اطمینان رکھیں، جلد ہی مجرم گرفتار ہو کر، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور رقم وزیورات آپ کے ہاتھوں

میں ہوں گے۔ بس آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔

**مالک مکان:** جی صاحب!

ہم سب مل کر آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

## مقدمہ (۴)

**بوڑھے میاں :** (ایک بوڑھا شخص ہانپتے کا نپتے پولیس تھانے پہنچا، اور پی ایس آئی کے پاس یہ رپورٹ درج کرا رہا ہے):

السلام علیکم ..... (تحرّاتے ہوئے) ..... پی ی ..... ایس آ آ آئی صحاب (تلفظ ایسے ہی کرنا ہے) ! .....

**پی ایس آئی :** علیکم السلام!

..... کیا بات ہے میاں! خیریت سے تو ہیں؟ کیوں اتنا ہانپ اور کانپ رہے ہوں؟ اللہ آپ کو عمرِ نوح عطا کریں، کہیں راستے میں آپ نے عذر رائیل کو تو نہیں دیکھ لیا؟!

**بوڑھے میاں:** پی ایس آئی صحاب! آپ بھی اچھا خاصہ مزاق کر لیتے ہیں، ..... ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی صرف ساٹھ، پینیسٹھ سال ہی تو ہوئے ہیں، ..... خیر چھوڑیئے! ..... دراصل بات یہ ہے کہ:

دروز پہلے دن دہاڑے ایک غنڈہ قسم کے لٹیرے نے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم گھروں کا راستہ روک لیا، اور ہتھیاروں کے ذریعے ڈرادھم کا کر، میری

بیوی اور بیٹی کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن، کان کی بالیاں اور میرے پاس موجود، دولاکھرو پئے لوٹ لیے، اور فرار ہوتے وقت ہمیں یہ دھمکی بھی دی، کہ اگر ہم نے ان کے خلاف تھانے میں رپورٹ کی، تو خبردار! اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گے۔ وہ غندہ شکل و صورت میں ”ویرپن“ کے خاندان کا لگ رہا تھا۔

پی ایس آئی صاحب! میں لٹ گیا، بر باد ہو گیا، زندگی کا پورا سرمایہ چھن گیا، اب وہ لوگ ہماری جانوں کے درپے ہیں، خدارا آپ ہماری مدد کیجئے،..... اس آسمان تلے خدا کے بعد، آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہمیں سہارا دیجئے، ہمارا مال ہمیں واپس دلوائیے، اور ان مجرموں کیفیر کردار تک پہنچائیے!

**پی ایس آئی:** میاں جی! آپ اطمینان رکھیں، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، مجرم چھوٹ نہیں سکتے، ہم ضرور انہیں گرفتار کر کے، اُن کے پاس سے آپ کامال وزر، ضبط کر کے آپ کو دلادیں گے، اور انہیں اُن کے اس جرم کی سزا بھی ملے گی۔ ان شاء اللہ!

**بوڑھے میاں:** شکریہ پی ایس آئی صاحب! آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم انتظار کریں گے، اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا بھی۔

0000000000

## مقدمہ (۵)

**پڑوسی:** (سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے) السلام علیکم صاحب!

**پی ایس آئی:** وعلیکم السلام..... کہیے جناب! کیسے آنا ہوا؟ اور یہ تمہارے

سر پر پٹی کیسی؟..... کیا آپ پیش تھیڑ سے فرار ہو کر آئے ہو؟

**پڑوسی:** پی ایس آئی صاحب! آپ کے پڑوس میں بھی کوئی پڑوسی ضرور رہتا ہوگا، لیکن میرے پڑوسی جیسا نہیں۔

**پی ایس آئی:** ہاں ہاں! ضرور، میرا بھی پڑوسی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی، انسان نے مل جل کر رہنا سیکھا، اسے کسی نہ کسی کا پڑوسی ضرور بننا پڑا ہے، قریبی رشتہ داروں کے علاوہ انسان کا ہم سایوں اور پڑوسیوں سے مستقل رابطہ رہتا ہے، اس کی خوش گواری اور ناخوش گواری کا اثر نہ صرف زندگی کے سکھ و چین، بلکہ اخلاق کے بنا و بگاڑ پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ:

”اچھا پڑوسی خدا کی رحمت ہوتا ہے، اور بُرا پڑوسی خدا کا عذاب“

**پڑوسی:** پی ایس آئی صاحب! بس، میرا پڑوسی بھی خدا کا عذاب ہے، جب سے میرے بازو میں رہنے کے لیے آیا، آ—آج تک سیدھے منہ بات نہیں کی، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، فخش بکواس اور گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، صح اٹھتا ہوں تو گالیوں کی منحوس بوچھار کانوں میں پڑتی ہے، شام میں آفس سے گھر آتا ہوں، تو بھی وہی حال، رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، تو زور زور سے گانے بجانے لگتا ہے، اگر کبھی سمجھانے کے لیے جاؤ، تو باوے لے کی طرح پھر اٹھا کر بھٹانا نے لگتا ہے، آپ میرے سر پر جو پٹی بندھی دیکھ رہے ہیں، یہ اُسی زحمتی پڑوسی کی کرم فرمائی ہے، آج صح نیند سے اٹھتے ہی ماں بہن کی گالیاں دینے لگ گیا، جب اسے سمجھانے کے لیے گیا، تو سمنا اور سمجھنا تو درکنار، پھر اٹھا کر مار دیا۔

پی ایس آئی صاحب! اب تو میں اس شرابی پڑوںی سے تنگ آچکا ہوں، اس کی وجہ سے محلے کے دوسرے نوجوان بھی شراب کے عادی بننے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا محلہ ہی اس کی زد میں آجائے، اور معاشرے کا چین و سکون غارت و بر باد ہو جائے، اس لیے آپ فوراً کارروائی کریں، اور اس بنتِ انگور کے شیدائی کو، جلد از جلد سزا دلوائیں۔

**پی ایس آئی صاحب:** ٹھیک ہے، تم نے ایف آئی آر درج کر ادا یا، اب ہم آج ہی اپنی تفتیشی ٹیم کو، آپ کے محلے روانہ کر دیں گے، اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ آپ کے اس شرابی پڑوںی اور دیگر تمام شرایبوں کے خلاف فردی جرم عائد کر کے، انہیں ۱۳ ارشعبان کی صبح تک عدالت عالیہ میں پیش کر دیں گے، اور ان پر شرعی حد جاری کر دی جائے گی۔

**پڑوںی:** شکریہ صاحب! آپ قانون کے رکھواليے، اور معاشرے میں امن و امان کے ضامن ہیں، مجھے قانون سے انصاف کی پوری توقع ہے۔

OoOoOoOoOoO

## مقدمہ (۶)

**رشوت دہنندہ ٹھیکیدار:** پی ایس آئی صاحب!

میں ایک ٹھیکیدار ہوں، سرکاری کاموں کے ٹھیکنے لیتا ہوں، ابھی کچھ روز پہلے میں نے گورنمنٹ کے PWD کھاتے (یعنی تعمیراتِ عامہ) کا ایک کام لیا، جس میں مجھے دو پل تعمیر کرنا ہے، میں نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ کام شروع

کردیا، کام الحمد للہ! مضبوط اور مستحکم ہے، جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کہیں کوئی تکنیکی خرابی باقی نہ رہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن کام سے متعلق آفیسر ان، بجائے اس کے کہ میری حوصلہ افزائی کریں، میری امانت و دیانت کی تعریف کریں، میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، کہ اگر تم نے ٹھیکے کی پوری رقم میں سے 25 فی صد ہمیں نہیں دی، تو ہم تمہارے اس کام پر سائن آؤٹ نہیں کریں گے، بلکہ اتنی خامیاں اور کمزوریاں نکالیں گے، کہ کم از کم تمہاری موجودہ نسل تو اس کا بل پاس نہیں کر سکے گی، لہذا طرفین کے لیے خبر اسی میں ہے کہ مطلوبہ رقم ادا کردو۔

پی ایس آئی صاحب! آپ کو پتہ ہے، اگر 25 لاکھ روپے انہیں دے دیئے جائیں، تو کام کا وہ معیار باقی نہیں رہے گا، اور یہ دونوں پل بہت جلد شکست و ریخت سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور نہیں معلوم! کتنے لوگ اپنی جان گنوں بیٹھیں گے۔ میں نے ان آفیسروں کی شکایت ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ سے کی، تو وہاں بھی ما یوس کن جواب ملا، کہ آفیسرس جتنا مانگیں خاموشی کے ساتھ اتنا دے دیا کرو، ورنہ مشکلات میں پڑ جاؤ گے، ایسا لگتا ہے گویا:

”ایک حمام میں ننگے سب ہیں،“

میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا، کہ میں آپ کے پاس پہنچ کر ان آفیسروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرادوں، آپ کا منصف ہونا، اور ظالموں جابرلوں کو بہتر طریقے سے نہ مٹنا، آج کل بہت چرچے میں ہے، میں انصاف کی امید لے کر

آپ تک پہنچا ہوں، امید کہ آپ میری مدد فرمائیں گے۔

**پی ایس آئی:** ضرور، کیوں نہیں! شریفوں کی مدد، اور رشوت خوروں کی گوش مالی، ہمارا فرض ہے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، اور تحقیق و تفتیش کے بعد، ان رشوت خور مجرم آفیسروں اور بھر شٹا چاروں کو آہنی سلاخوں کے پچھے پہنچا کر ہی دم لیں گے۔

**رشوت دہنده ٹھیکیدار:** شکریہ صاحب! مجھے آپ سے یہی امید تھی۔

0000000000

## عدالت عالیہ میں مقدمات کی سُنوائی

**پیش کار:** محترم حاضرین! مکملہ پولیس نے تمام ملزموں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور آج موئرخہ ۱۳ شعبان ۱۴۳۲ھ کو انہیں عدالت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اب دیکھئے، ان مجرموں کے خلاف عدالت عالیہ کیا فیصلہ سناتی ہے، اور معاشرے پر اس کے کیا دو رس نتائج مرتب ہوتے ہیں؟!

### مقدمہ نمبر (۱)

**پیش کار (آواز لگاتا ہے):**

مقدمہ نمبر ایک کے فریقین کمرہ عدالت میں حاضر ہوں.....!!  
(وکیل دفاع ملزم نمبر ایک کے ساتھ، اور وکیل استغاثۃ لڑکی کے باپ کے ساتھ کمرہ عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔)

**حج:** (وکیل دفاع کی طرف مخاطب ہو کر):

آپ کے موکل پراغوا اور زنا کا مقدمہ دائر ہے، کیا آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟

**وکیل دفاع:** جی محترم حج صاحب!

میرے موکل کو اپنے ان دونوں جرموں کا اعتراف ہے، مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں اس بار معاف کر دیں، آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔

**حج :** شرعی قوانین وہ ہیں، جنہیں خود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا، انہی میں ”حدود“ بھی داخل ہیں، اور ”حدود“ کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ثبوتِ جرم کے بعد، اُس پر مرتب ہونے والی سزا کو عدالت معاف نہیں کر سکتی، کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْزَانِيَةُ وَالْزَانِيُّ فَاجْلِدُوَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ . ”زنہ کا رعورت اور زنا کا مرد سو (دونوں کا حکم یہ ہے کہ) ان میں سے ہر ایک کے سوسوڈرے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنے پائے، اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔“ (سورہ نور، آیت: ۲)

آپ کا موکل چوں کہ محسن؛ یعنی شادی شدہ ہے، الہذا عدالتِ عالیہ اُسے مقاصدِ شریعت کی دفعہ ۳ ”حافظتِ نسل“، کے تحت سنگ سار کیے جانے کا حکم دیتی ہے، اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کو یہ حکم دیتی ہے، کہ تین دن کے اندر اندر مجرم کو سنگ سار کیے جانے کے انتظامات مکمل کر کے، اس عدالتی حکم کو نافذ کریں۔<sup>(۱)</sup>

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

## مقدمہ نمبر ۲

پیش کار (آواز لگاتا ہے):

مقدمہ نمبر ۲ کے فریقین کمرہ عدالت میں حاضر ہوں.....!!

جج (وکیل دفاع سے مخاطب ہو کر):

آپ کے موکل پر مرڈر؛ یعنی قتل کا مقدمہ دائر ہے، کیا آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟

وکیل دفاع: جی محترم نجح صاحب! میرے موکل کو اپنے جرم کا اعتراف ہے، مگر انجام سے بے خبر ہو کر، اُس نے قتل کا اقدام کیا ہے، یہ اُس کا پہلا قتل ہے، اور مجرم کی پہلی غلطی معاف ہوتی ہے، جیسے کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے، تو وہ معاف ہوتی ہے، الہذا آپ بھی میرے موکل کی اس پہلی غلطی کو معاف کر دیں۔

جج: وکیل صاحب! قاتل کو موت کی سزا دینا، یہ حقِ شرع ہے، اور بندہ حقِ شرع کو معاف نہیں کر سکتا، الہذا عدالتِ عالیہ اس مجرم قاتل کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِي الْحُرُّ﴾

**بِالْحُرْ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْشَى بِالْأُنْشَى** ﴿۷۸﴾ . **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَا أُولَئِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴿۷۹﴾ . (سورہ البقرۃ: ۷۸، ۷۹)

اور مقاصد شریعت کی دفعہ ۲/ ”حافظت نفس“ کے تحت، موت کی سزا سناتی ہے۔

OoOoOoOoOoO

## مقدمہ نمبر ۳

پیش کار (آواز لگاتا ہے):

مقدمہ نمبر ۳ کے فریقین کمرہ عدالت میں حاضر ہوں.....!!

حج (وکیل دفاع سے مخاطب ہو کر):

آپ کے موکل کے خلاف چوری کا مقدمہ درج ہے، کیا آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟

وکیل دفاع: ہاں حج محترم! میرا موکل مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، اپنی بیوی بچوں کے اخراجات اس کے ذمہ بڑھ گئے تھے، اور آج کل مہنگائی بھی تو آسمان سے با تین کرہی ہے، کیا آلو، ٹماٹر، بیگن، ..... اور کیا دال، بھات، اور ساگ پات، ..... غرض تمام اشیائے خورد و نوش تقریباً ایک دام میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اور میرے موکل نے یہ پہلی بار چوری کی، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، جب کہ قانون مجبوری میں ممنوع کام کو بھی جائز کہتا ہے، لہذا میں آں جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر حد شرعی قائم نہ کی جائے۔

وکیل استغاثہ: محترم حج صاحب! وکیل دفاع، عدالت کو گمراہ کرنے

کی کوشش کر رہا ہے، اُس کے موکل کی یہ چوری پہلی بار نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اُس کے خلاف چوری کے مقدمات، مقامی تھانوں میں درج ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مجرم آج تک قانون کی گرفت سے پچtarہا، اگر آپ کو یقین نہ ہو، تو آپ متعلقہ تھانوں سے انکواڑی کرو سکتے ہیں۔ نیز وکیلِ دفاع کا یہ کہنا کہ ”اُس نے یہ چوری مجبوری میں کی، اور مجبوری میں ممنوع کام جائز ہوتا ہے“ - دونوں باتیں سراسر غلط ہیں، اس لیے کہ موکل اپنی چوری میں مجبور نہیں، بلکہ عادی مجرم ہے۔ ..... نیز وکیلِ دفاع کی یہ بات کہ مجبوری میں ممنوع کام جائز ہوتا ہے، ..... تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ یہ دوبارہ قانون کی تعلیم حاصل کریں، کیوں کہ قانون کی دفعہ ”الضَّرُورَاتُ تُبْيَحُ الْمُحْظُورَاتِ“ ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ - مجبور شخص کو دوسرے کی جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت ہے۔ نیز جب کوئی کام ضرورتاً جائز ہوتا ہے، تو بقدرِ ضرورت ہی جائز ہوتا ہے، حالانکہ ملزم نے مالکِ مکان کے تمام زیورات اور نقد رقم پر ہاتھ صاف کیا، الہذا عدالتِ عالیہ سے درخواست ہے، کہ وہ ملزم کو اس کے جرم کی گراری سزادے۔

**حج (وکیلِ دفاع کی رحم کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے):**

آپ کے موکل کا چور ہونا، شرعی شہادتوں سے ثابت ہو چکا، اور چوری کا مال اُس کے نصاب سرقہ (سماڑھے تین تولہ چاندی یا اُس کی قیمت/ریٹ معلوم کر لیں) سے کئی گناہ زائد ہے، الہذا عدالت تمام حاضرین اور گواہوں کی موجودگی

میں مجرم نمبر ۳ کو، خدائی فرمان: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ﴾ . (سورہ المائدۃ: ۳۸)

اور مقاصد شریعت کی دفعہ ۲/ ”حافظتِ مال“ کے تحت، اُس کے دابنے ہاتھ کے کاٹ دیئے جانے کا حکم دیتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مقدمہ نمبر ۴

پیش کار (آواز لگاتا ہے):

مقدمہ نمبر ۲ کے فریقین کمرہ عدالت میں حاضر ہوں.....!!

جح (وکیل دفاع سے مخاطب ہو کر):

آپ کے موکل کے خلاف لوٹ مار کا مقدمہ درج ہے، کیا آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟

وکیل دفاع: محترم نجح صاحب! میرے موکل کو اپنے جرم کا اعتراض ہے، مگر ہم اور آپ اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں، کہ ہر انسان کی کچھ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، مثلاً: بیوی بچوں کا خرچ، موبائل بیلنس، بیڑی، سگریٹ، گلکھا، تمباکو وغیرہ۔ جب وہ اپنی یہ ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا، تو مجبوراً اُسے ناجائز طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میرے موکل نے اپنے جرم کا ارتکاب چوں کہ مجبوری کی حالت میں ہی کیا ہے۔ اس لیے میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو باعزت بری کر دیا جائے، نیز اس کی ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوئی انتظام بھی فرمادیں!

## وکیل استغاثہ: محترم نجح صاحب!

وکیلِ دفاع عدالتِ عالیہ کو گمراہ کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے موکل نے اس جرم کا ارتکاب مجبوری میں نہیں، بلکہ لوٹ مار کے عادی مجرم ہونے کی وجہ سے کیا ہے، نیز وکیلِ دفاع جن چیزوں کو اُس کی ضرورتیں قرار دے رہا ہے، ان میں سے اکثر ضرورت نہیں، بلکہ عیاشی ہے، اور کسی انسان کی اس طرح کی ضرورتیں اُسے لوٹ مار جیسے جرائم کی اجازت نہیں دیتیں، ورنہ کسی بھی فرد کا مال محفوظ وسلامت نہیں رہے گا، لہذا مجرم کو اُس کے اس جرم کی کڑی سزادے کر، لوگوں کے مالوں کو محفوظ کیا جائے۔

**حج:** عدالتِ عالیہ.....اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ . (سورة المائدۃ: ۳۳)

اور مقاصد شریعت کی دفعہ ۲/ ”حافظتِ مال“ کے تحت، مجرم کے داہنے ہاتھ، اور بائیں پاؤں کو کاٹ دینے جانے، نیز لوٹا ہوا مال چوں کہ اُس کے پاس موجود ہے، اس لیے اُس کے واپس کرنے کا حکم سناتی ہے۔ (۳)

OoOoOoOoOoO

## مقدمہ نمبر ۵

**پیش کار (آواز لگاتا ہے):**

مقدمہ نمبر ۵ کے فریقین کمرہ عدالت میں حاضر ہوں ..... !!

**حج (وکیل دفاع سے مخاطب ہو کر):**

آپ کے موکل کے خلاف شراب نوشی، اور پڑو سی کو دیق کرنے کا مقدمہ درج ہے، کیا آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟

**وکیل دفاع:** محترم حج صاحب! میرے موکل کو شراب نوشی کا اعتراض ہے، لیکن ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اور شراب کا استعمال اس کے لیے وقت یا مستقل طور پر شفا ہو، تو کیا مریض کے لیے شراب کا استعمال لازم نہیں؟ کیوں کہ اگر وہ شراب نہیں پیتا اور مر جاتا ہے، تو گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور یہ بات فرمان باری تعالیٰ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْتَّهْلُكَةِ﴾ کے تحت گناہ ہے۔ لہذا میرے موکل کا شراب پینا جرم کے دائرے سے خارج ہے۔

رہی بات پڑو سی کو دیق کرنے کی! تو وہ نشے کی حالت میں تھا، نشے کی حالت میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جس انسان کی عقل زائل ہو، وہ مجرون کہلاتا ہے، اور مجرون مرفوع القلم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ“ . (مستدرک حاکم)

اس لیے میں عدالتِ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں، کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔

**وکیل استغاثہ:** محترم نجح صاحب!

وکیلِ دفاع کا یہ کہنا، کہ اُس کا موکل بطورِ علاج کے شراب نوشی کرتا ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ پورا محلہ اس پرشاہد ہے کہ شراب نوشی کی عادت سے پہلے موکل تو انہی سخت مند تھا، شراب کی لکت اور عادت نے اُسے بیمار بنادیا، لہذا اُسے شراب نوشی اور پڑوسی کو دیق کرنے کی سخت ترین سزا دی جائے۔

**حج** (وکیلِ دفاع سے مخاطب ہو کر):

تمام ثبوتوں اور شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی، کہ آپ کا موکل شراب کا عادی ہے، لہذا عدالتِ عالیہ، فرمان باری تعالیٰ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ  
الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.

(سورہ المائدۃ: ۹۰، ۹۱)

اور مقاصد شریعت کی دفعہ ۵ ”حافظتِ عقل“ کے تحت، آسی (۸۰).....  
کوڑے لگانے کا حکم سناتی ہے۔

0o0o0o0o0o0

## مقدمہ نمبر ۶

**پیش کار (آواز لگاتا ہے):**

مقدمہ نمبر ۶ کے فریقین کمرہ عدالت میں حاضر ہوں .....!!

**حج (وکیل دفاع سے مخاطب ہو کر):**

آپ کے موکل کے خلاف رشوت خوری کا مقدمہ درج ہے، کیا آپ اپنے موکل کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟

**وکیل دفاع:** جی ہاں محترم نجح صاحب!

میرے موکل کو گرچہ اپنی رشوت خوری کا اقرار ہے، مگر میں اُس کے احوال سے اچھی طرح واقف ہوں، اُس پر اپنے آٹھ بچوں، بوڑھے ماں باپ اور دو بیوہ بہنوں کے خرچ کی ذمہ داری ہے، مکان کرایہ کا ہے، مزید برآں تمام چیزوں کے دام بڑھ چکے ہیں، اُس کی متعینہ تن خواہ میں یہ تمام اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے اُس کی رشوت خوری کا اقدام قانون کے مزاج و مذاق کے مطابق جرم نہیں ہونا چاہیے، میں عدالتِ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کے اس جرم پر قلمِ عفو پھیر دیا جائے، نیز اُس کی تن خواہ میں اضافے کا آرڈر کیا جائے۔

**وکیل استغاثہ:** (نج سے مخاطب ہو کر) محترم نجح صاحب!

وکیل دفاع کی تمام باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں، اُس کے موکل کے آٹھ نہیں، صرف دونپھے ہیں، ماں باپ تو کب کے سفرِ آخرت پر روانہ ہو چکے، اور دو بہنیں؛ تو وہ بیوہ نہیں، بلکہ اپنے اپنے شوہروں کے گھر خوش حال زندگی گزار رہی ہیں، اسی

طرح مکان کرایہ کا نہیں، بلکہ خود اُس کی ملکیت کا ایک شان دار بنگلہ ہے، جس کی مالیت تقریباً دو کروڑ روپے ہے۔

(یہ ہیں وہ تمام کاغذات ..... حج کو کاغذات سونپتے ہوئے ..... جن میں ملزم کے متعلق پوری تفصیل موجود ہے۔)

**محترم حج صاحب!** (جد بات میں آکر ٹھیکیدار کی طرف اشارہ کر کے):

نہ جانے ان جیسے کتنے، بھولے بھالے، ایمان دار ٹھیکیداروں سے، اس آفسر نے ظلمًا و جبراً رشوت وصول کی ہوگی، اس کے باوجود، وکیلِ دفاع قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اپنے موکل کو سزا سے بچانا چاہتا ہے، ان کا موکل چوں کہ اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے، لہذا عدالت عالیہ کو چاہیے کہ مجرم کو جلد از جلد رشوت خوری کے معاملے میں سزادے۔

**حج** (وکیلِ دفاع سے مخاطب ہو کر):

تمام ثبوتوں کی روشنی میں، اور وکیل استغاثہ کے بیان سے، یہ بات ثابت ہو چکی کہ آپ کا موکل، رشوت خوری / اکرپشن کا مجرم ہے، لہذا عدالت عالیہ، فرمان سرکار ﷺ: ”الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ“ . (المعجم الأوسط) اور مقاصد شریعت کی دفعہ ۳/ ”حفظتِ مال“ کے تحت، مجرم کو اُس کی ملازمت سے برطرف کرنے، اور جن جن افراد سے رشوت کی رقمی، وہ انہیں لوٹانے کا حکم سناتی ہے۔ (عدالت برخاست ہوتی ہے!)

OoOoOoOoOoO

# اپیل اور عہد

محترم حاضرین!

عدالت میں پیش ہونے والے مقدمات اور فیصلوں کو آپ نے بغور سنا، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرح کے جرائم کا شکار ہو چلا ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، مقدمات فیصل ہو رہے ہیں، مجرمین کو سزا میں دی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کا یہ سلسلہ ختم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور آئے دن عصمت ریزی، قتل و غارت گری، لوٹ مار و چوری اور رشوت خوری کے واقعات اخبارات کی شہر خیال بن رہے ہیں، جو اس بات کے غماز ہیں کہ جرائم کی روک تھام کے لیے، جس قدر صحیح کوششیں کرنی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہیں، حکومتیں اور قانون ساز ادارے ایسے قوانین وضع کر رہے ہیں، جن میں تضادات ہیں، مثلاً:

ایک جانب یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ جبراً زنا اور عصمت دری کے مجرم کو موت کی سزا دی جائے، تو دوسری طرف ۲۲ رابر برس کے بعد، رابر برس تک رضا مندی کے ساتھ اس جرم کو ترقی کی علامت کہا جا رہا ہے، جب کہ جرم، جرم ہوتا ہے، خواہ جبراً ہو یا رضا مندی سے، اور وہ ترقی کی نہیں، بلکہ تباہی و بر بادی کی علامت ہوتا ہے۔

ایک طرف عورت کا پیچھا کرنے، اُس سے میل جوں بڑھانے، اُسے غلط الیں ایم الیں کرنے کو جرم کہا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آزادی نسوں کے نام پر مرد

و عورت کے اختلاط، مخلوط تعلیم، مخلوط نوکریوں، عریانی فلموں، جذبات کو بھڑکانے والی تحریروں اور اشتہارات کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔

ایک جانب رشوت لینے کو منع کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بغیر مطالبے کے لی جانے والی رقم کو، رشوت کے زمرے سے خارج کیا جا رہا ہے۔

ایک جانب شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے، یا بحالتِ نشہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے کو منع کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب حکومتی لائنس کے ساتھ شراب فروشی کی عام اجازت دی جا رہی ہے۔

ایک طرف کسی کی تو ہین وہ تک عزت کو جرم کہا گیا، تو دوسری طرف حقِ آزادی رائے کے سہارے اسے پامال کرنے کی پوری گنجائش دی گئی۔

ایک طرف قتل و خون ریزی اور مذہب کی بنیاد پر اشتعال انگلیزی کو جرم کہا گیا، تو دوسری طرف عملًا شرپسند عناصر کو نہ صرف اس کی کھلی اجازت دی گئی، بلکہ سیاسی پارٹیاں ان کی مکمل پشت پناہی کر رہی ہیں، اور انہیں اپنا پارٹی امیدوار بنا کر انتخابات میں اُتار رہی ہیں، اس حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے ۲۲ دسمبر ۲۰۱۲ء کے اُردو روزنامہ ”انقلاب“ کی یہ خبر کافی ہے کہ:

”۳۶۹ رمبران پارلیمنٹ اور اسمبلی پر خواتین کے خلاف جرائم کا الزام ہے“  
ایک طرف قوم کے نونہالوں کو اچھے اخلاق و کردار کی تلقین کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف اسکولی نصابوں میں جنسی مضامین کو شامل کر کے، ان کو غلط را ہوں کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، اور پھر ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مہذب، با

اخلاق اور اچھے کردار والے انسان بنیں!

”ایں خیال است و محال است و جنول!“

### محترم حاضرین!

یہ سب تضادات ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان جیسا امن و آشتی، اخوت و بھائی چارگی میں مثالی ملک، دن بدن خطرناک بد امنی و آزار کی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس سے بے چین ہو کر حقیقت پسند طبیعتیں یہ پکارا ٹھہر رہی ہیں کہ اگر اس دھرتی کو جرائم سے پاک کر کے، امن و امان کو بحال کرنا ہے، تو اسلامی سزا میں نافذ کی جائیں، اور سزاوں کے ساتھ ساتھ ان کے ذرائع پر بھی پابندی لگائی جائے، جیسا کہ ۲۲ دسمبر ۲۰۱۲ء کا اردو روزنامہ ”انقلاب“ کی یہ تحریر اس کا بیان شہوت ہے کہ:..... ”دبلی گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد“ اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا“ کے سینئر نائب صدر، اور ”وشو ہندو سینا“ کے صدر ”سوامی اوم جی“ نے کہا کہ زانیوں کو سزا دینے کے لیے شرعی قانون لاگو کیا جانا چاہیے، انہوں نے مزید کہا کہ جیسے اسلامی قانون میں زانی کو سزا دی جاتی ہے، ویسے ہی ہندوستان میں بھی لاگو کیا جائے۔“

### خلاصہ کلام یہ کہ:

اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جرائم کا انسداد اور روک تھام ہو..... تو:

⦿ حکومت کو ان تضادات کو ختم کرنے کے ساتھ، جرائم کے ذرائع پر بھی پابندی لگانی ہوگی۔

⦿ قانونی اداروں کو پوری دیانت و ایمان داری کے ساتھ، جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ افزائی نہ کرتے ہوئے، انہیں جیل کی سلاخوں کے پچھے ڈھکیلنا ہوگا۔

⦿ تعلیمی نصابوں میں اخلاقی قدرتوں پر مشتمل مضامین کو داخل کرنا ہوگا۔

⦿ ہر سماج کے والدین اور سرپرستوں کو، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے کر، ان پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی۔

⦿ اخلاق و روایات پر عمل کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور ”قدامت پسند، کٹر وادی، کٹر پنپتی“، جیسے الفاظ کہہ کر، ان کی حوصلہ شکنی سے باز رہنا ہوگا۔

اگر ان تمام باتوں کو بروئے کار لایا گیا، تو اُمید ہے کہ جرائم کا یہ بڑھتا ہوا سیلا بختیم جائے، اور ہماری یہ دھرتی جرم و فساد سے پاک ہو کر، امن و امان کا گھوارہ بن جائے۔

**تو آئیے !.....**

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے، اس ۲۵ رویں عظیم الشان سالانہ اجلاس میں شریک - سٹھج پر جلوہ افروز، اس کے روحِ رواں، میر کاروں حضرت وستانوی دامت برکاتہم، دیگر بزرگانِ دین اور وارثینِ انبیاء کے سامنے یہ **عہد** کریں..... کہ ہم:

⦿ ہندوستان کی اس سر زمین پر ایسا معاشرہ قائم کریں گے، جو شراب، زنا، چوری، غیبیت، لوٹ کھسوٹ، رشوت، سودا اور جوا جیسے جرائم سے پاک ہو، اور اس

میں ہر فرد کی آبرو و عزت، جان و مال محفوظ ہو۔

- ⦿ اپنے بچوں کو دینی و دنیوی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔
- ⦿ خدا تعالیٰ احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔
- ⦿ خود اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور دوسروں کو عمل کی تلقین کریں گے۔
- ⦿ آپ کی ﷺ محبت کو اپنے دلوں میں، اور آپ ﷺ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔
- ⦿ دوسروں کے حقوق ادا کریں گے۔
- ⦿ ناحق کسی کامال نہیں کھائیں گے۔
- ⦿ لڑکیوں کو وراثت میں اُن کا شرعی حق دیں گے۔
- ⦿ مدارس، مکاتب اور خانقاہوں کو مضبوط و مستحکم کریں گے۔
- ⦿ دعوت و تبلیغ سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں گے۔
- ⦿ مسجدوں کو آباد کریں گے۔
- ⦿ اپنے خدا سے اپنے رشتہ کو استوار کریں گے۔
- ⦿ اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچا کر دوسروں کو بچانے کی فلکر کریں گے۔
- ⦿ مرتے دم تک، اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔

اے اللہ! ہمیں اپنے اس عہد پر قائم رکھ!

ہم سے راضی ہو جا، اور مرنے کے بعد اپنی رضامندی کا پروانہ ہمیں عطا فرمایا!!

آمین یا رب العالمین!

## رباعی

پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے اٹھادے یارب!

اپنے بندوں کو راہِ راست دکھادے یارب!!!!

شب ہے تاریک، سمندر میں بپا ہے طوفان!!!!

ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگادے یارب!!!!!!

## الحجۃ علی ما قلنا :

(۱) ما فی ”الهداۃ“ : (الزنا یثبت بالبینة والإقرار) ..... لأن البینة دلیل ظاهرٌ ، وكذا الإقرار ، لأن الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بشبوته مضرة ومعرفة ، والوصول إلى العلم القطعي متعدد فيكتفي بالظاهر . قال : (فالبینة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا) قوله تعالى : ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ . وقال الله تعالى : ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شَهِدَاءَ﴾ . وقال عليه الصلاة والسلام للذی قذف امرأته : ”اينت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك“ . ولأن في اشتراط الأربعه يتحقق معنى الستره وهو مندوب إليه .

(۲) ۳۸۱/۲ ، کتاب الحدود ، ط: دار الأرقم بيروت)

ما فی ”الهداۃ“ : (وإذا وجب الحد و كان الزاني محسناً رجمه بالحجارة حتى يموت) لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً وقد أحصن . وقال في الحديث المعروف : ”وزنا بعد إحسان“ . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم .

(۳۸۳/۲) فصل في كيفية الحد وإقامته)

(۲) ما فی ”الهداۃ“ : السرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسراار ، ومنه استراق السمع . قال الله تعالى : ﴿إِلَا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ﴾ . وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة ..... والمعنى اللغوي مراعي فيها ابتداءً وانتهاءً أو ابتداءً لا غير؟ كما إذا نقب الجدار على الاستسراار وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهاز . وفي الكبرى أعني قطع الطريق مسارقة عين الإمام ؛ لأنه هو المصتدي لحفظ الطريق بأعوانه ، وفي الصغرى مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه .

قال : (إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حزرٍ لا شبهة فيه وجب عليه القطع) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ الآية .

وفيه : (ويجب القطع باقراره مرة واحدةً ، وهذا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين) .

=وفیه أيضًا : قال : (ويجب بشهادة شاهدين) لتحقق الظهور كما فيسائر الحقوق .

(٢/٧٣٠، ٣٠٨، ٣٠٩ ، کتاب السرقة)

ما في ”الهداية“ : قال : (ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم) فالقطع لما تلوّنه من قبل ، واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ومن الزند؛ لأن الإسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به ، كيف وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند ، والجسم لقوله عليه الصلاة والسلام : – ”فاقتعوا واحسّموه“ ؛ ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف ، والحدّ زاجر لا مختلف . (٢/١٥، ١٢٣)

(٣) ما في ”الهداية“ : ومن قطع الطريق ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين الكوفة والحيرة فليس بقطع الطريق استحساناً ، وفي القياس يكون قاطع الطريق ، وهو قول الشافعي رحمه الله لوجوده حقيقة . وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجب الحد إذا كان خارج مصر وإن كان بقربه ، لأنه لا يلحقه الغوث . وعنده : إن قاتلوا نهاراً بالسلاح أو ليلاً به أو بالخشب فهم قطاع الطريق ، لأن السلاح لا يثبت والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة ، ولا يتحقق ذلك في مصر وبقرب منه ، لأن الظاهر لحقوق الغوث ، لأنهم يؤخذون برد المال إيصالاً للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحسبون لارتكابهم الجنائية .

(هداية : ٢/٢٢٣ ، دار الأرقم بيروت)

OoOoOoOoOoO

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ فَسَادٍ فِي  
 الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
 فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْنَاهُمْ  
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لِمُسْرِفُوْرَ﴾ - (القرآن)

## مجموع الضروريات خمسة :

////

**حفظ الدين** ، 

**حفظ النفس** ، 

**حفظ النسل** ، 

**حفظ المال** ، 

**حفظ العقل** ، 

(الموافقات للشاطبي)

## (۹) مکالمہ بابت:

سماج و معاشرے میں پنپتے جرائم

اور ان کا انسداد

(قسط ثانی)

کردار:

(۱) ترجمان: (واجد)

(۲) جہیز کا مطالب شوہر: (ڈاکٹر شاہد)

(۳) اشیائے خوردنوں میں ملاوت کرنے والا تاجر: (شیخ وحید)

(۴) اغوا و عصمت دری کا مرتكب: (شیخ ضمیر)

(۵) پیش کار: (زاہد)

(۶) وکیل استغاثہ اول: (حامد میاں)

(۷) وکیل استغاثہ دوم: (عاطف میاں)

(۸) وکیل دفاع: (ساجد میاں)

(۹) وکیل دفاع: (واصف میاں)

(۱۰) چیف جسٹس: (قاضی مجاہد الاسلام صاحب)

## مقدمات

### مقدمہ (۱)

لڑکی کا باپ جہیز کے مطالب شوہر کے خلاف!

### مقدمہ (۲)

محکمہ خوراک و رسد کے آفیسر ان خائن تاجر کے خلاف!

### مقدمہ (۳)

مغوبیہ کا باپ مغوبی کے خلاف!

## تمہید

**توجہمن:** آج جس معاشرے و سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ مختلف، سُنگین، خطرناک بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، ظلم و بربرتی، سودخوری، رشوت ستانی، قتل، ڈاکہ زنی، لوت کھسوٹ، شراب نوشی، اغوا، عصمت دری اور فحاشی و عریانی نے، ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، حکومتیں ان سے نجات پانے کے لیے قانون سازی بھی کر رہی ہیں، مگر خاطر خواہ اس کے نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں، جس کی دوا ہم وجہیں ہو سکتی ہیں:

- (۱) انسانی دلوں سے خوف خدا، اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کا نکل جانا۔
- (۲) عدالتوں پر، مال و زر، اثر و رسوخ اور اصحابِ اقتدار و اختیار کا اثر انداز ہونا۔

جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد، جن اہم ستونوں پر اُستوار فرمائی تھی، ان میں دواہم ستون یہی تھے:

- (۱) انسانی دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرنا، اور ہر شخص میں اس احساس کو پیوست کرنا، کہ اسے مرنے کے بعد اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہے۔
- (۲) عدالتیں کسی کے زیر اثر ہو کر فیصلہ نہیں کریں گی، بلکہ اصولوں کے مطابق وہ اپنے فیصلوں میں آزاد و مختار ہوں گی، تاکہ اس کے فیصلے عدل و انصاف کی نریں مثالیں ثابت ہوں، اور اگر انہوں نے متعینہ اصولوں کے خلاف فیصلہ کیا، تو ان کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خود مجرموں کے زُمرے میں داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت اس پر شاہد

عدل ہے، وہ فرماتی ہیں کہ:

”قریش کو ایک مخزومی عورت کا بہت خیال تھا، جس نے چوری کی تھی، لوگوں نے کہا کہ کون رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون اس کی جرأۃ کر سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کی، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے کئی قویں ہلاک ہو گئیں، اس لیے کہ جب ان میں کا شریف چوری کرتا، تو وہ لوگ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا، تو اس پر حد جاری کرتے، قسم ہے خدا کی۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔“ (صحیح بخاری، سنن نسائی)

تو آئیے! اسی اسلامی عدالت کی چند جھلکیوں کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، اور دیکھیں کہ اسلامی عدالت کا طریقہ کار، اور اس کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟

اسلامی عدالت کا یہ پروگرام جامعہ کے شعبہ افتاء کے طلبہ پیش کرنے جاری ہے، لہذا تمام ہی سامعین و مشاہدین ہمہ تن متوجہ ہو کر، اسے دیکھیں اور سنیں!

OoOoOoOoOoO

## ملزم نمبر ایک ..... جہیز کا مطالب شوہر ..... ڈاکٹر شاہد:

**وکیل استغاثہ:** عزت آب نجح صاحب!

میری موکلہ، ڈاکٹر اسماء۔ جو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کو اس کے والدین نے بڑے ناز دع姆 میں پورش کیا، دینی و دنیوی تعلیم سے آراستہ کیا، اپنی بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور خواتینِ اسلام کی خدمت کریں، اس جذبے کے تحت، اُسے ایم بی بی ایس MBBS ڈاکٹر اور گاننا کولوجسٹ (ماہر امراضِ نسوان-Gynecologist) بنایا، تعلیمِ مکمل ہونے پر مناسب، موزوں رشته سمجھ کر، ملزم ڈاکٹر (شاہد) کے خاندانی پس منظر، معاشرے میں ان کے اثر و رسوخ، گھر کے دینی ماحول وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، اپنی بچی اس سے منسوب کر دی، مگر شادی کے بعد تین مہینے اچھی طرح گزرے، اس کے بعد ڈاکٹر شاہد نے میری موکلہ۔ ڈاکٹر اسماء۔ سے مطالبه کیا کہ وہ جدید طرز کا ہسپتال کھولنے کے لیے، اپنے میکے سے دو کروڑ روپے لے کر دیں، شادی میں بھی اسماء کے والدین نے کافی جہیز اور بھاری رقم دی تھی، اس کے باوجود سُسرائی لوگ، میکے سے دو کروڑ لا کر دینے پر مصروف تھے، ڈاکٹر اسماء کے والد نے یہ مطالبه پورا نہیں کیا، تو شوہر اور سرایوں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی، روزانہ کے مظالم سے تنگ آ کر، اور اپنے والد کی معاشی مجبوریوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر، میری موکلہ نے خود سوزی کر لی، شدید جھلسی ہوئی حالت میں اسے ہسپتال شریک کیا گیا، جہاں دورانِ علاج اُس کی موت واقع ہو گئی۔

ملزم؛ میری موکلہ کی خود سوزی کرنے، اس کے والدین کو اپنی اکلوتی لخت جگر، نورِ نظر کے فوت ہونے کے غم و اندوہ میں بمتلا کر دینے، قوم و ملت کو اپنی ایک نہایت ہوشیار، خدمت گزار بیٹی سے محروم کر دینے کا ذمہ دار ہے، اور میرے اس مدعا پر یہ دو حضرات شاہد ہیں۔ (شاہدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے)، لہذا ملزم کو سببِ قتل قرار دے کر، اس کے عاقلہ (قاتل اور اس کے ناصرین و مددگار، اس کے ہم پیشہ افراد، یا اس کے اہل خاندان) پر دیتِ قتلِ خطا؛ ایک ہزار دینار، یعنی ۲۰۰ رگرام سونا، یا پھر دس ہزار درہم، یعنی ۳۶۰ رکلو ۲۰۰ رگرام چاندی، یا اس کی موجودہ قیمت واجب کی جانی چاہیے، جیسا کہ ”الموسوعة الفقهية“: ۳۲/۳۲، کی عبارت: ”وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ قَتَلَ بِسَبَبٍ وَمُؤْجِبٍ لِلَّدِيَّةِ عَلَى الْعَاكِلَةِ؛ لَا نَهَى سَبَبُ التَّلْفِ، وَهُوَ مُتَعَدٌ فِيهِ، وَلَا كَفَّارَةً فِيهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ؛ لَا نَهَى الْقَتْلَ مَعْدُومٌ مِنْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ يَأْثُمُ بِالْحَفْرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَا يَأْثُمُ بِالْمَوْتِ“ ..... سے معلوم ہوتا ہے۔  
.....تاکہ مقاصد شرعیہ کی دفعہ نمبر ۲/ (حافظتِ نفس) کا تحفظ ہو سکے۔

**وکیل دفاع: محترم نجح صاحب!**

وکیل استغاثہ کی تمام باتیں جھوٹ کا پلندہ اور محض ایک پروپیگنڈہ، اور فسانہ ہیں، میرا موکل ان تمام الزامات کا انکار کرتا ہے، اور ان کی ظاہری وضع قطع، جسم پر اسلامی لباس، چہرے پر شرعی داڑھی، پیشانی پر سجدے کا نشان، پورے محلے

والوں کا اُن کی دین داری کے گُن گاتے رہنا، وغیرہ، سب اس کے حق میں شاہد ہیں، کہ یہ تمام باتیں اس کے خلاف محض ایک سازش ہے، جس کے تحت اسے پھنسا کر، لڑکی کے والدین اس سے کوئی بڑی رقم اینٹھنا چاہتے ہیں، اور میرے موکل کو ناکردار گناہ کی سزا دلوا کر، اسے ڈپریشن کا شکار بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے میدان میں نمایاں خدمات انجام نہ دے سکے۔ اور فقهہ کا مشہور اصول ہے:

”الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ سَاعَدَهُ الظَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ“ . (قواعد الفقه : ص / ۱۲)

(کہ ظاہر جس کے حق میں مساعد ہوا سی کا قول معتبر ہوتا ہے)

الہذا عدالت عالیہ سے گزارش ہے، کہ میرے موکل کو باعزت بری کر دیا جائے، اور فریق مخالف کو ہتک عزت کی سزادی جائے، تاکہ معاشرے کے باعزت افراد کی اس طرح دوبارہ رسوائی و ذلت کی نوبت نہ آئے، اور عام لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں، کیوں کہ حفاظت عرض (عزت) شریعتِ اسلامیہ کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے۔

## ملزم نمبر دو ..... اشیائے خورد و نوش میں ملاوط کرنے والا تا جر ..... شیخ وحید؛

### وکیل استغاثہ: جناب حجج صاحب!

ملزم-وحید-شہر کی ایک بڑی کرانہ دکان کا مالک، جس نے اشیائے خورد و نوش میں آمیزش و ملاوط کر کے، لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اسی ناجائز آمدنی سے اپنی دکان و مکان کے لیے فلک بوس عمارت بنایا، وہ ہر سال حج و عمرہ

بھی کرتا ہے، اور مسجد و مدرسہ کی بڑی بڑی رسیدیں بھی بناتا ہے، سرکاری آفیسروں کی ٹیم جب چینگ کے لیے اس کے ہاں پہنچتی ہے، تو انہیں اتنا خوش کر کے بھیجا ہے، کہ ان کی یہ خوشی کم از کم سال دو سال تک تو ختم نہیں ہوتی۔

محترم حج صاحب! ..... ملزم-وحید-ملاوط و آمیزش میں اسم با مسمی واقع ہوا ہے، یعنی اس کام میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔

لزم: اشیائے خورد و نوش میں ملاوط کر کے، جھوٹ، دھوکہ دہی، اور انسانی صحتوں کے ساتھ کھلوڑ جیسے شرعی و اخلاقی جرائم کا مرکتب ہوا ہے، لہذا شرعی قوانین کی دفعہ نمبر ۲- حفاظت نفس- کی خلاف ورزی کے تحت، اسے کم از کم ۳۹ روڑے، اور ایک سال قید با مشقت کی سزا دی جائے۔ نیز اس کے تجارتی لائسنس کو بھی منسوخ کیا جائے، تاکہ آئندہ- وہ اس جرم کا سوچ بھی نہ سکے، اور دیگر اس جیسے مجرموں کو بھی سبق حاصل ہو۔

عن سفیانَ بْنِ أُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

”كُبَرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدَّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدَّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَادِبٌ“ . (سنن أبي داود: ص/ ۲۷۹، كتاب الأدب، باب في المعاريض)

عن أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ”آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَوْتُمْنَ خَانَ“ .

(صحیح البخاری: ۱۰/۱)

عن أَنَسِ بْنِ عَمِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ : ”الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَعُقوَّقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ“ . (ترمذی: ۲۲۹/۱)

## وکیل دفاع: محترم نجح صاحب!

میرے موکل - وحید - کے خلاف جتنے الزامات لگائے گئے، وہ سب بے بنیاد اور غلط ہیں، وحید - انتہائی نیک صفت، صوم و صلوٰۃ کا پابند، انسانیت نواز، ہر سماجی و رفاقتی اور دینی کام میں پیش پیش رہنے والا شخص ہے، وہ صرف اپنی قوم میں ہی نہیں، بلکہ غیروں میں بھی مقبول و محبوب ہے، اس کی یہ ظاہری حالت، وکیل استغاثہ کی خلاف ظاہر تمام باتوں کی نفی کرتی ہے، اور ظاہر حال چوں کہ دلیل شرعی ہے، لہذا میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے، نیز اس مقدمے کو لڑنے میں آنے والے تمام مصارف کے ساتھ ساتھ، اس کی جودل آزاری و ہتک عزت ہوئی ہے، اس کا معاوضہ بھی محکمہ اشیائے خورد و نوش کے آفیسروں سے دلایا جائے!

## ملزم نمبر تین ..... اغوا و عصمت دری کاملزم ..... شیخ ضمیر؛

### وکیل استغاثہ: محترم نجح صاحب!

ملزم؛ شیخ ضمیر ابن وزیر نے ایسی گھناوٹی حرکت کی ہے، کہ اس نے نہ صرف انسانی ضمیروں کو جھنگھوڑ کر کھدیا، بلکہ پوری انسانیت کو شرم سار کر دیا۔

ہوا یوں کہ؛ میرے موکل - ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب اور ان کی بیوی اپنے ہسپتال میں انسانی خدمات، مریضوں کی تشخیص اور ان کے دوا و علاج میں مصروف و مشغول تھے، اور ان کی معصوم، تھی منی، پھول سی بچی، گھر کے آنگن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، گھر کی خادمہ اپنے کاموں میں مگن تھی، اسی درمیان اس درندہ صفت انسان نے اس بچی کو پیار و محبت سے اپنے پاس بلایا،

کھلو نے اور کھانے کی چیزیں دلو انے کالا لچ دے کر، اُسے اپنی کار میں بٹھا کر شہر سے دور، سنسان جگہ لے جا کر، اس معمصوم و نابالغ بچی کی نہ صرف عصمت دری کی، بلکہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے بعد، اُس کو قتل کر کے، اُس کی لعش کو قربی تالاب میں پھینک دیا۔

جناب نجح صاحب! میرے موکل ڈاکٹر عبد الرحمن کی یہ اکلوتی بڑی تھی، جس کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لیے، وہ اور ان کی بیوی رات دن محنت کر رہے تھے، کہ ہم اپنی اس بچی کو اعلیٰ دینی و دنیوی تعلیم سے آراستہ کریں گے، تاکہ بڑی ہو کر، جہاں وہ اپنے والدین کے لیے باعثِ صد افتخار ہو، وہیں مسلم قوم کا سر فخر سے اونچا کرے۔

جناب نجح صاحب! ان دو گواہوں کی گواہی، اور جائے واردات کے جائزے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کہ ملزم نے جہاں اس کے والدین کے سامانِ مسرت و شادمانی اور مرکزِ امید کو چھین لیا، وہیں وہ ان کے دماغی تو اڑن کھو جانے کا سبب بھی بنا ہے، جس کی وجہ سے پوری لبستی ایک دین دار، نیک صفت، انسانیت کی ہم درد؛ میاں بیوی کی طبی خدمات سے محروم ہو گئی، اور اس واقعے کو پڑھ، سن کر پوری انسانیت شرم سار ہو گئی ہے۔

ملزم..... اپنی ان گھناؤنی حرکتوں کی وجہ سے زندہ رہنے کا حق دار نہیں ہے، شرعی قانون کی دفعہ نمبر ۵، ۳، ۲، اور ۵- حفاظتِ نفس، حفاظتِ نسل، حفاظتِ عقل- کی خلاف ورزی- کے تحت، مجرم تحفظ دار کا مستحق ہو چکا ہے، نیز انسانی عقلیں بھی

اس کا تقاضا کرتی ہیں، کہ جو شخص ناحق کسی کے جینے کے حق کو چھین لے، اسے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ورنہ انسانی جانوں کا تحفظ دشوار ہوگا، جب کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد، انسانی جانوں کی حفاظت ہے، الہذا عدالتِ عالیہ سے درخواست کی جاتی ہے، کہ ملزم کا جرم ثابت ہو جانے کی وجہ سے، قصاص میں قتل کر کے اُسے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

۱ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاَنْثُى بِالاَنْثُى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَادَّاءِ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ، ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِنَاءِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾ . (سورة البقرة: ۱۷۸، ۱۷۹)

۲ - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝﴾ . (سورة المائدۃ: ۳۵)

۳ - ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝﴾ . (سورة المائدۃ: ۳۲)

و کیل دفاع: جناب عالی!

وکیل استغاثہ کی باتوں میں سچائی و صداقت نہیں ہے، میرے موکل نے اس پنجی کا اغوانہ نہیں کیا تھا، بلکہ واقعی پیار و محبت ہی میں اپنے پاس بلا�ا تھا، اور سچ رجح وہ اسے کھلو نے اور کھانے کی چیزیں دلوانے کے لیے، اپنے ساتھ بازار لے جا رہا تھا، اور آپ ﷺ کے ایک ارشاد:

”مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤْفِرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا“.

..... پر عمل پیرا ہو رہا تھا، لیکن نفس و شیطان اس پر غالب آگئے، جس کی وجہ سے اس سے یہ تمام افعال سرزد ہو گئے۔

جناب نجح صاحب! آپ بھی اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ -نفس و شیطان- کا مکر کیسا ہوتا ہے؟ اور وہ کس طرح آپ جیسے، ذہین، فطیم، فہیم، متین اور دالش وروں کو بھی اپنے دام فریب میں جکڑ لیتا ہے، تو میرا موکل (اشارة کر کے) بے چارہ، انتہائی سیدھا سادہ، بھولا بھلا انسان ہے، بھلا وہ کیوں کراس کے فریب سے بچ سکتا تھا، ..... اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ابوالبشر؛ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب اس کے مکروہ فریب سے نہیں بچ سکے، تو ان کی اولاد کیسے بچ سکتی ہے؟ ..... لہذا آپ سے میری گزارش ہے، کہ میرے موکل کے اس جرم پر قلم عفو پھیر کر، اُسے بری کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پنجی پکی توبہ کر کے، دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔

○○○○○○○○○○○

## شرعی فیصلہ

**حج:** عدالتِ عالیہ، وکیل استغاثہ کے تینوں دعووں پر بینات اور گواہیوں کے قائم ہو جانے، ان کے ٹھوس اور مضبوط دلائل کے پیش کرنے، اور اپنے ذرائع وسائل سے تحقیقِ جرائم کرا لینے کے بعد.....:

**ملزم نمبر ایک** .....ڈاکٹر شاہد کے..... قوانینِ شرعیہ کی دفعہ نمبر ۲۰۰۰ اور ملکی دستور کی دفعہ ۲۱ رکی خلاف ورزی کا مرتكب ہونے کی وجہ سے، اس پر، اور اُس کے عاقله پر دیت کو واجب کرتی ہے۔ جس کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے، ۳۶ کلو ۲۷۳ رگرام سونا۔ یا پھر، ۳۶ کلو ۲۰۰ رگرام چاندی ہوتی ہے۔

**ملزم نمبر دو** .....شیخ وحید کے..... قوانینِ شرعیہ کی دفعہ نمبر ۲۰۰۰ رکی خلاف ورزی کا مرتكب ہونے کی وجہ سے، اسے ۳۹ رکوڑے لگانے، ایک سال قید با مشقت، اور اس کے تجارتی لائسنس کی منسوخی کا حکم دیتی ہے۔

**ملزم نمبر تین** : شیخ ضمیر کے، شرعی قوانین کی دفعہ نمبر ۲۰۰۳ را اور ۵ رکی خلاف ورزی کا مرتكب ہونے کی وجہ سے، اسے قصاص میں قتل کر دینے کا حکم دیتی ہے۔

**حاضرین!** پچھلشنِ حیات کے مہکتے پھول، اور قدرت کا انمول تحفہ ہوتے ہیں، تحفہ جس قدر بڑا، اور جتنی عظیم ہستی کی طرف سے ہوتا ہے، اتنی ہی اُس کی قدر کی جاتی ہے، اور اس کا حق بھی ادا کیا جاتا ہے، اولاد کا حق والدین پر یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اسے کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے، اس کی نشوونما اور ترقی کے لیے وہ تمام ذرائع

مہیا کیے جائیں، جو اس کی استطاعت میں ہوں، اپنی مالی حیثیت کے مطابق مکان، غذا اور کپڑے لئے کا حلal طریقے سے انتظام کریں، اس کی بہترین پروش کریں، اس کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، اور بری صحبتوں سے اسے روکیں، سات سال کی عمر تک اُسے نماز اور اخلاق کے بنیادی اصول سکھا اور سمجھا دیں۔ کیوں کہ، اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ . ”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔“ (سورة التحریم: ۶)

صحیح بخاری میں امام مجاہد رحمہ اللہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”﴿قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ﴾ أَوْ صُوْرًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدْبُوْهُمْ“ . ”اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال (بیوی، بال بچوں) کو تقوی خداوندی کی تعلیم دو، اور انہیں حسن تربیت سے آراستہ کرو۔“ (صحیح بخاری)

حدیث پاک میں وارد ہے: ”مَا نَحَلَ وَالِّدُ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ“ . ”والدین کا اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ حسن ادب ہے۔“ (ترمذی) اسی طرح آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”مَنْ وُلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْحُسِنْ إِسْمَهُ، وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوْجْهُ، فَإِنْ بَلَغَ فَلَمْ يُزَوْجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ“ . ”جس شخص کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، اُسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھیں، اسے ادب سکھائیں، اور بالغ ہونے پر اس کا نکاح کر دیں، اگر وہ بالغ

ہوا، اور اس کی شادی نہیں کی گئی، پھر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر ہوگا۔” (بیہقی)

آج کے اس ترقی یافتہ دور میں موبائل فون، انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی نے ہر گھر میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے، جس سے نوجوان نسل میں فحاشی، عریانیت اور عصمت دری و بے حیائی بڑے زوروں پر منتقل ہو رہی ہے، حکومتیں اس کے خلاف قوانین بنارہی ہیں، اس کے باوجود بے ہودگی اور غیر انسانی وغیر اخلاقی حرکتوں کا یہ سیلا ب تھمتا دکھائی نہیں دیتا، ایسے حالات میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا، اور ان کی اچھی تربیت کرنا والدین کے حق میں محض مستحب نہیں، بلکہ فرض ہے، جس کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اخلاقی درس دیا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیں، اور ان کی حرکات و سکنات پر پوری نظر رکھیں!

اگر والدین اولاد کے ان حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہی اولاد ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور پھر والدین اپنی اولاد کی نافرمانی، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کا روناروٹے پھرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ دراصل یہ نتیجہ ہے۔ اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی و غفلت کا۔

اگر والدین اپنے بچوں کو اسلامی اصول تعلیم و تربیت کے مطابق، تعلیم و تربیت دیں، تو ان سے ان جرائم کا صد و رہیں ہو سکتا، جن کا ہم نے اور آپ نے، اس ”اسلامی عدالت“ پروگرام میں مشاہدہ کیا۔

OoOoOoOoOoO

يَا أَيُّهَا الظَّيْرُ امْنُوا لِّا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا مَأْرُوكُور  
تِجَارَةً عَوْنَرْ تِرَاضِرْ مِنْكُمْ ﴿القرآن﴾

///

وَهُوَ: أَنْ يَأْكُلَ .....:

بِالرِّبَا، ﴿الْقَارِب﴾

وَالْقَمَارِ، ﴿الْقَارِب﴾

وَالْبَخْسِ، ﴿الْقَارِب﴾

وَالْظَّلْمِ، ﴿الْقَارِب﴾

وَبِغَيْرِ عَوْضِ، ﴿الْقَارِب﴾

(جِصَاص)

(۱۰)

## مکالمہ بابت:

# ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت

**کردار:**

(۱) ترجمان.....(واجد علی)

(۲) خریدار.....(ماجد)

(۳) خریدار.....(خالد)

(۴) کروڑ پتی.....( محمود شاہ )

(۵) مالک زمین.....( حامد پاشا )

(۶) ڈیولپر.....( پوسیٹھ )

(۷) ہمدرد دیندار.....( امتیاز احمد )

(۸) پیش کار.....( شاہد علی )

(۹) وکیل استغاثہ.....( صدر الدین آزر دہ )

(۱۰) وکیل دفاع.....( خسرو میاں )

(۱۱) چیف جسٹس اول.....( مفتی خیر محمد صاحب )

## تمہید

**ترجمان:** محترم سامعین! آج ہمارا معاشرہ حلال آمدنی و حلال کمائی کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے، جتنی اسے دینی چاہیے تھی، مسلمانوں کا تاجر طبقہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ جن چیزوں کی تجارت کر رہا ہے، شریعت کی نگاہ میں ان کی خرید و فروخت جائز ہے بھی یا نہیں؟ اور تجارت کی کوئی صورتیں جائز ہیں؟ اور کوئی ممنوع؟ جب کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”حلال کمائی کا طلب کرنا ہمیشہ فرض ہے“، اور حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہوتا ہے، اسی مناسبت سے طلبہ افتاء، دارالافتاء جامعہ ہذا کی نمائندگی کرتے ہوئے ”ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت“ کے عنوان پر ایک مکالمہ فقہیہ شرعیہ کو، بصورت مقدمہ و فیصلہ پیش کرنے جارہے ہیں، دیکھئے! غور کیجیے! اور اپنی اصلاح فرمائیجیے!

## مقدمہ

خالد و ماجد حامد پاشا کے خلاف،

خالد و ماجد اختر میاں کے خلاف،

پوسیٹھ خالد و ماجد کے خلاف،

**ماجد:** ارے یا خالد! دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، آپ محمود کو جانتے ہیں نا؟

**خالد:** کون محمود؟

**ماجد:** ارے بابا محمود یا ر؛ جو کانج میں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، لکھنے پڑھنے سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، ہمہ وقت کھیل کو د، مستی و شرارۃ میں لگا رہتا تھا، جس نے ماسٹر صاحب کے گھر جا کر، اُن کے گھر والوں سے جھوٹ بول کر پانچ سورو پئے اینٹھ لیے تھے، اور پھر ان روپیوں سے پوری کلاس والوں کو اور ماسٹر

صاحب کو پیڑے کھلانے تھے، یہ کہہ کر کہ:

میرے ابو ”ریٹائر“ ہوئے ہیں، اس خوشی میں انہوں نے یہ پیڑے بھیجے ہیں۔

**خالد:** ہااااااااااااااااااا..... یاد آیا، یاد آیا!..... تو اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟

**ماجد:** کچھ ہوانہیں، بس؛ سب محلہ، بستی والے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔

**خالد:** وہ کیسے؟

**ماجد:** آپ کو پتہ ہے! اس کے والد کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی، گھر کے مصارف زیادہ تھے، لیکن ہمارے اس کلاس فیلو کا نصیبہ چمک گیا، آج وہ کروڑوں کا مالک ہے، شہر سے باہر ایک شاندار بنگلے میں اپنی بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہے، عمدہ مرسید بیز کار-زیر استعمال ہے، ہر وقت دس پانچ لوگ ساتھ لگے رہتے ہیں، پورے علاقے میں اس کا نام چلتا ہے۔

**خالد:** ماجد میاں! یہ تو بتائیئے کہ اس کے حالات آناً فاناً اتنے جلدی کیسے بدل گئے؟ کیا کوئی دفینہ ہاتھ آگیا؟

**ماجد:** نہیں بھی! کوئی دفینہ و فینہ ہاتھ نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے والد سے ایک معمولی رقم لے کر، زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا، اور اللہ نے اس میں خوب برکت دی، اور میں نے بھی ایک مولانا سے سنا ہے کہ ”تجارت میں اللہ تعالیٰ نے 90% رزق رکھا ہے، اور دیگر ذرائع میں م Huss 10%“۔

**خالد:** ہوووو!..... اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اور آپ جو پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، اور ہمہ وقت گھر کے اخراجات اور کچن میں پریشان

رہتے ہیں، اسی 10% والی روزی میں شامل ہیں!

**ماجد:** ہاں ہاں، بالکل!

**خالد:** تو یار! ہمیں بھی ایسی کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس 90% والی روزی میں داخل ہو جائیں، اور ویسی ہی عیش و آرام کی زندگی گزرے، جیسے ہمارے دوست محمود کی گزر رہی ہے۔

لیکن..... ماجد! ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟

**ماجد:** کرنا کیا ہے؟ بس وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، جو محمود نے اختیار کیا ہے۔

**خالد:** لیکن بظاہر اس راستے پر چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے!

**ماجد:** دیکھو خالد! اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکلے نیست کہ آسان نہ شود! بس حوصلہ رکھو!

**خالد:** ٹھیک ہے، تو پھر بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

**ماجد:** بہت ایزی ہے، اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پس انداز قم ہو، تو مجھے دیدو، میں اتنی ہی اپنی رقم ملا دوں گا، ہم دونوں زمین کا کاروبار شروع کر دیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہمارے دن پلٹ جائیں گے۔

**خالد:** ٹھیک ہے!

**ترجمان:** اس گفتگو کے بعد، خالد اور ماجد تین لاکھ روپے کے سرمایہ سے زمین کے کاروبار میں قدم رکھتے ہیں۔

کچھ دنوں بعد دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے:

**ماجد:** السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**خالد:** علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

**ماجد:** ارے خالد!

میں نے سنا ہے شہر سے لگ کر، بالکل اپ سڑک حامد پاشا اپنی پانچ لاکھڑی میں، پانچ کروڑ میں فروخت کر رہے ہیں، میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے گھر ان کی آمد و رفت بھی ہے، ابا کے مخلص دوستوں میں سے ہیں، اگر وہ زمین ہم خریدتے ہیں، تو وہ ہماری خاطر چار پانچ لاکھ کم بھی کر سکتے ہیں۔

**خالد:** تم تو بالکل پچھے ہو، کہاں پانچ کروڑ، اور کہاں ہمارے تین لاکھ؟ اتنی معمولی رقم میں ان کے ساتھ ہم کیسے معاملہ کر سکتے ہیں؟

**ماجد:** تم بھی تو ہو لے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ لگتا ہے تمہیں اس کا رو بار کی ہوا بھی نہیں لگی، ابے، ہمیں انہیں پوری پانچ کروڑ کی رقم تھوڑی نادینا ہے، بلکہ ہم سودا کر کے حامد پاشا صاحب کو صرف تین لاکھ کی رقم، بطورِ ٹوکن و بیعاوہ دیں گے، اور معااملے کو ہتمی شکل دینے کے لیے، اُن سے ایک سال کی مہلت لے لیں گے، اس درمیان ہم دونوں مل کر یہ کوشش کریں گے، کہ اس زمین کو سات کروڑ میں خریدنے والا کوئی بکرا مل جائے، اس کے ہاتھ یہ زمین فروخت کر دیں گے، اس سے سات کروڑ لے کر، پانچ کروڑ حامد پاشا کو دیں گے، اور بقیہ دو کروڑ میں ہمارا آدھا آدھا نفع رہے گا! یعنی صرف سال بھر کی مدت میں، ہم اپنی اصل رقم دیڑھ دیڑھ لاکھ پر، ایک ایک کروڑ بینیفیٹ کماییں گے، آئی نابات کھوپڑی میں؟ کیسی

تدبیر ہے؟ ایسی تدبیروں کے برآمد کرنے کے لیے اصل گھی کھانا پڑتا ہے، آلو بیگن سے کام نہیں چلتا! سمجھے!

**خالد:** ہاں بھئی! اب آپ کی ریاضی سمجھنے کے لیے، مجھے بھی روغنِ بادام کی ماش سر پر کرانا پڑے گی! تو ٹھیک ہے پھر آپ حامد پاشا صاحب سے بات چیت کر کے، انہیں ٹوں لو، وہ کیا کہتے ہیں؟

**ترجمان:** اب ماجد، حامد پاشا صاحب سے ملاقات کر کے ان سے اس معاملے کی پیش رفت کرتے ہیں۔

**ماجد:** السلام علیکم و و و و و م! حامد چچا! (تلفظ ایسے ہی)

**حامد پاشا:** و علیکم السلام!

برخوردار! کیسے آنا ہوا میاں؟ سب گھر میں خیریت تو ہیں نا؟

**ماجد:** جی چچا! گھر میں سب خیریت سے ہیں، دراصل حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سنا، آپ اپنی شہر سے متصل ایک پانچ ایکڑ زمین، پانچ کروڑ میں فروخت کر رہے ہیں؟

**حامد پاشا:** ہاں! کیا آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں؟

**ماجد:** جی ہاں!

**حامد پاشا:** مگر تمہارے پاس اتنا سرمایہ تو ہے نہیں، اور میں تمہاری معاشی حالت سے بخوبی واقف ہوں!

**ماجد:** چچا! آپ صحیح فرمائے ہیں، ہماری اکانومک کنڈیشن (معاشی

حالت) ایسی نہیں کہ ہم اتنی قیمتی زمین نقد خریدیں، مگر میں اور میرے دوست خالد نے تین لاکھ روپے مشترکہ طور پر جمع کیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ سے اس زمین کا سودا کر لیں، بیعانہ کے طور پر آپ کو فی الحال تین لاکھ روپے دے دیں، اور سودا پاؤتی (اگر یمنٹ ٹو سیل / دستاویز) کر لی جائے، بقیہ رقم ایک سال کے بعد، اُس وقت دیں گے، جب ہم اس زمین کی قطعی بیع کر لیں گے، اور اسی وقت خریدی بکری کی رجسٹری بھی ہو جائے گی، اس درمیان میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی خریدار مل جائے، جس سے نقدر رقم لے کر، ہم آپ کی مقررہ قیمت - مقررہ وقت پر دیں، اور بقیہ رقم ہمارا نفع ہوگی۔ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہماری اس درخواست کو قبول کریں گے، اور جو ریٹ آپ نے لگائے، اس میں کچھ تخفیف بھی کر دیں گے۔

**حامد پاشا:** بیٹا ماجد!

تم میرے مرحوم دوست ساجد کی نشانی ہو، میں تمہاری ان دونوں فرمائشوں کو قبول کرتا ہوں، مگر اتنی بات یاد رکھو کہ یہ بنس ہے، اور بنس میں آج کل جو اصول رائج ہیں، ان کی پابندی مجھے اور آپ دونوں کو کرنی ہوگی!

**ماجد:** میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

**حامد پاشا:** میاں! اس بنس میں یہ اصول ہے کہ مقررہ تاریخ کو اگر خریدار، پورا پیمیٹ ادا کرنے میں ناکام ہوتا ہے، تو بیعانہ کی رقم ڈوب جاتی ہے، اور مالکِ زمین؛ یہ زمین تھرڈ پارٹی کے ہاتھوں فروخت کرنے کا مجاز ہوتا ہے،

اس صورت میں خریدار کو اپنے اصل سرمایہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ ان نگاہوں نے بہتوں کو دیکھا؛ اس بزنس میں آئے، راتوں رات ان کا نصیبہ چمک گیا، ”روٹ پتی“ سے ”کروٹ پتی“ بن گئے، اور بہت سے ایسوں کو بھی؛ جنہیں نفع تو کیا ملتا، مزید قرض کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے، ایک روٹی کے چکر میں آدھی بھی ہاتھ سے چلی گئی۔

**ماجد:** چچا! یہ اصول سمجھ میں آگیا، اسی اصول کے مطابق ہم آپ سے یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمائیے! آپ ہمارے لیے اس زمین کی قیمت کیا لگاؤ گے؟ اور پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے کتنی مہلت دو گے؟

**حامد پاشا:** کوئی اور ہوتا، تو میں ایک روپیہ بھی کم نہ کرتا، میری یہ زمین سونا ہے سونا، چوں کہ تم میرے مرحوم دوست کی اکلوتی اولاد ہو، تم روپے کماو مجھے اس میں خوش محسوس ہوگی، اس لیے میں تمہیں یہ زمین چار کروڑ ۹۰ لاکھ میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں، جس کے لیے آپ تین لاکھ روپے بطور بیعانہ دو نگے، اور ٹھیک ایک سال بعد پوری قیمت ادا کر کے، اس معاملے کو حتمی شکل دے کر، خریدی ٹکری کر لی جائے گی، تم تین لاکھ روپے دیدو، میں تمہیں ایکریمنٹ ٹو سیل ( وعدہ بیع) کی دستاویز بنا دیتا ہوں۔

**ماجد:** ٹھیک ہے چچا! یہ لیجیے..... تین لاکھ روپے کا ٹوکن (بیعانہ)۔

**ترجمان:** ماجد و خالد دونوں بہت خوش ہیں، گھر جاتے وقت انہوں نے بازار سے، اپنے دوست و احباب اور گھر والوں کے لیے مٹھائیاں خریدیں، اور سب کا منہ میٹھا کیا۔

اب خالد و ماجد رات دن یہ کوشش کر رہے ہیں، کہ کسی طرح انہیں متعینہ مدت میں اس زمین کا کوئی خریدار مل جائے، تاکہ زمین نفع کے ساتھ اس کے ہاتھ فروخت کر کے، چچا حامد کی مقرر کردہ قیمت ادا کر دیں، اور اپنا نفع بھی نکال لیں، لیکن سال ختم ہونے کو ہے، اور اب تک انہیں کوئی خریدار نہ مل سکا، آج کل زمین کا کاروبار-مندری کا شکار ہے، دونوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، کہ کہیں مدت ختم ہونے پر اصل سرمایہ بھی ڈوب نہ جائے، بہر حال! اللہ اللہ کر کے ایک خریدار ..... پوسیٹھ ہاتھ لگا، آگے ملا حظہ کچیے!

**ماجد و خالد:** السلام علیکم ..... پوسیٹھ!

**پپو سیٹھ:** علیکم السلام .....!

**خالد:** سیٹھ جی! ہمارے پاس ایک زمین ہے۔

**ماجد:** زمین کیا ..... بلکہ سونا ہے.....!

**پپو سیٹھ:** آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کیا زمین؟ کیا سونا، میں کچھ سمجھا نہیں!

**ماجد:** سیٹھ جی! ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے، اگر آپ اسے لو گے، تو سونے کا دامدے کر جائے گی!

**پپو سیٹھ:** کونسی زمین؟ حامد پاشا کی، جو آج کل موضوعِ سخن بنی ہوئی ہے؟ میں نے بھی سنا ہے کہ بڑی قیمتی زمین ہے، اور تم دونوں نے یہ سودا کیا ہے! ..... تو بولو! کتنے میں دینا ہے؟

**ماجد:** سیٹھ جی! صرف ساڑھے سات کروڑ روپے!

**پیو سیٹھ:** زیادہ ہوتے ہیں، ذرا نیچے اُترو!

**ماجد:** چلو، سات کروڑ میں لے لو، آپ کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی نقصان نہ ہو!

**پیو سیٹھ:** ٹھیک ہے، لو یہ پانچ لاکھ کا ٹوکن، اور بقیہ دو ماہ بعد دوں گا!

**ترجمان:** حاضرین! خالد و ماجد اپنی محنت پر بڑے خوش ہیں، اور آنے والے نفع پر ابھی سے پلانگ میں مصروف ہیں، لیکن جب دو ماہ کی مدت پوری ہونے پر، معاملے کو ختمی شکل دینے، اور بقیہ رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو پوسیٹھ کی طرف سے انہیں کیا جواب ملتا ہے؟..... ملاحظہ ہو!

**پیو سیٹھ:** میاں خالد و ماجد! کیا بتاؤں، میں نے آپ لوگوں سے معاملہ تو کر لیا، مگر اس کے بعد سے کاروباری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، اور آج یہ حالت ہے کہ میں تقریباً ایک کروڑ کا مقروض ہو چکا ہوں، اب تم ہی بتاؤ! میں تمہارے ساتھ کیے گئے معاملے کو کس طرح ڈیل کر سکتا ہوں؟ میں معدرت خواہ ہوں، اور آپ لوگوں سے موبدانہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم کر کے، ٹوکن کے پانچ لاکھ روپے مجھے واپس دیدو، اور اس معاملے کو ختم کر دو!

**ماجد و خالد:** سیٹھ صاحب! آپ نے ہماری تمام امیدوں، آرزوں، منصوبوں اور پلانوں پر پانی پھیر دیا، ایسا لگتا ہے ہمارا مستقبل تاریک ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں؛ آپ کے ساتھ معاملے کے بعد ہم نے کیا کیا خیالات باندھے تھے، کیا کیا خواب دیکھے تھے، وہ سب چکنا چور ہو گئے، رہی آپ کے بیغانہ کی پانچ لاکھ کی رقم؛ تو ہم نے اس رقم سے اختر میاں کے ساتھ ایک کروڑ مالیت کی زمین کا

معاملہ کر رکھا ہے، پانچ لاکھ کی رقم بطورِ ٹوکن انہیں دیدی، اور مزید رقم کی ادائیگی کے لیے چھ ماہ کی مہلت لے رکھی ہے، لیکن جب آپ اس معاملے کو ختم کر رہے ہیں، تو ہمارا اختر میاں کے ساتھ کیا گیا معاملہ بھی پورا نہیں ہو سکے گا، اور ہم نے انہیں جو پانچ لاکھ بطورِ بیعانہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں واپس نہیں ملیں گے، اس لیے ہم آپ کی اس درخواست کو قبول کرنے سے معدود ہیں۔

**ترجمان:** ادھر حامد پاشا سے لی گئی مہلت پوری ہوتی ہے، اور حامد پاشا بقیہ پیغمبیر کی ادائیگی اور معاملہ کو حقیقی شکل دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو خالد و ماجد ان الفاظ میں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ..... سماعت فرمائیں!

**ماجد و خالد:** پچھا حامد پاشا صاحب! ہم آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاملے پر بڑے خوش تھے، اور ہمیں امید تھی کہ ہم اس میں اچھا خاصاً نفع کما کر اپنے مکانات بنالیں گے، بچوں کی شادیاں کر دیں گے، حج و عمرہ کی سعادتوں سے بہرہ ور ہوں گے، مگر کیا بتائیں! رات دن محنت کے باوجود ہم آپ کی زمین کو آگے فروخت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، ایک بندے کے ہاتھ سودا بھی ہو گیا، اس نے بطورِ ٹوکن پانچ لاکھ روپے بھی ہمیں دیتے، مگر کار و باری حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس معاملے کو حقیقی شکل نہ دے سکا، اور معاملے کو ختم کر دیا، اور اب اپنے بیعانہ کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، جب کہ وہ رقم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر ڈوب چکی ہے، لہذا خدارا! آپ ہمارے حال پر حرم فرمائیے، اور بیعانہ کی رقم واپس کر دیجیے، اور یہ سمجھئے کہ ہمارا اور آپ کا سودا کینسل!

**حامد پاشا** (غصہ میں لال پسیلے ہو کر باؤاز بلند):

کم بختوں! میں نے پہلے ہی تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، پانچ کروڑ کی زمین چار کروڑ نوے لاکھ میں دینے کا وعدہ کیا، پیغمبیر کی ادائیگی کے لیے سال بھر کی مہلت دی، اور آج ایک سال بعد تم لوگ اس سودے کو کینسل کر رہے ہو، جب کہ اس درمیان کئی گاہک بڑی بڑی قیتوں کا آفر لے کر آئے، مگر میں نے انہیں یہ زمین نہ دی، بلکہ تمہارے ساتھ کیسے ہونے سودے کے مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور آج تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو!..... جاؤ! معاملہ ختم، اور تمہارے ٹوکن کی رقم بھی تمہیں واپس نہیں دی جائے گی! جو بنے کر لینا!

**ترجمان:** خالد و ماجد اپنی سال بھر کی محنت پر پانی پھر جانے، اور اصل سرمایہ کے ڈوب جانے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تو ایک دین دار شخص (امتیاز) انہیں تسلی دیتا ہے:

**امتیاز** (ایک دیندار): دیکھو بھائیو! نفع و نقصان قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، اتنا زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حامد میاں نے تمہارے بیعانہ کی جو رقم رکھ لی، وہ اچھا نہیں کیا، اسے تمہارے حال پر حرم کرنا چاہیے تھا، اور تم لوگوں نے حامد میاں کے ساتھ اپنے معاملے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی، اس کی زمین کا جو سودا پوسیٹھ سے کیا، یہ بھی اچھا نہیں کیا، اب ایسا کرو، تم اپنا یہ مقدمہ کسی ماہروکیل کے ذریعہ، شرعی عدالت میں داخل کر دو، یقین ہے کہ تمہیں ضرور انصاف ملے گا، اور تمہارے بیعانہ کی رقم بھی واپس مل جائے گی۔

**ترجمان:** خالد و ماجد ملک کے معروف مشہور وکیل ”صدر الدین آزردہ“ کے ذریعہ عدالت عالیہ میں اپنا یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں، جس کی سماعت کے لیے ۱۲ ربیعہ شعبان ۱۴۳۵ھ کی تاریخ طے کی جاتی ہے، لبھیے! ۱۲ ربیعہ شعبان ۱۴۳۵ھ کی تاریخ آپنچی، اور دونوں فریق اپنے وکیل کے ساتھ احاطہ عدالت میں موجود ہیں!

**پیش کار:** مقدمہ نمبر ایک کے مدعی اور مدعی علیہ کمرہ عدالت میں حاضر ہوں!

**وکیل استغاثہ (صدر الدین):** جناب نجح صاحب!

میرے موکل - ماجد و خالد - نے حامد پاشا صاحب سے، چار کروڑ نوے لاکھ میں پانچ لاکھ ز میں کا سودا کیا، بطور ٹوکن (بیعانہ) انہیں تین لاکھ روپے دیئے، بقیہ رقم کی ادائیگی اور معااملے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک سال کی مدت باہمی رضامندی سے طے پائی، اس درمیان میرے موکلوں نے جان توڑ کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ ڈیل ہو جائے، مگر نجح صاحب! آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قدرت کی مشیت کے بغیر، آدمی اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہی کچھ میرے موکلوں کے ساتھ ہوا، اور وہ اس معاملے کو ڈیل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے، مدعی علیہ - حامد - کو چاہیے تھا، کہ کشاور دلی و ہمدردی کا مظاہرہ کرتا، ان مصیبتوں کے ماروں کو تسلی دیتا، ان کے بیعانہ کی رقم واپس کرتا، کہ یہی مونمانہ اخلاق، اور شرعی قانون کا تقاضا تھا، جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنَّكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ . (سورہ النساء: ۲۹)

اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كَرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ

اللَّهُ عَنْهُ كَرْبُ الْآخِرَةِ ..... وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ

أَخِيهِ ” . (سنن النسائي: ۳۰۸/۳ ، قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا : ۱/۳۸)

لہذا میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں، کہ مدعا علیہ کو اُس کے اس غیر اخلاقی فعل پر تعزیر کی جائے، اور میرے موکلوں کو، بیعانہ کی رقم واپس کی جائے!

### وکیل دفاع (خسر و میاں): محترم نجح صاحب!

وکیل استغاثہ عدالت عالیہ کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نہ قانون پڑھا، نہ تاجرلوں کے عرف و رواج کو سمجھا، زمین کے کاروبار میں تاجرلوں کا عرف و رواج یہ ہے کہ: جب سودے کینسل ہو جاتے ہیں، تو نہ ٹوکن کی رقم واپس کی جاتی ہے، اور نہ خریداروں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے، گویا دونوں اس بات پر راضی ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں طرفین کی رضامندی اس معاملہ پر اثر انداز ہوا کرتی ہے، جیسے؛ نکاح، نیج، اجارہ وغیرہ!

نیز معاملات میں عرف و رواج کا اعتبار ہوتا ہے، اور عرف و رواج یہی ہے کہ بیعانہ کی رقم واپس نہیں کی جاتی، جیسا کہ قانون شرع کی دفعہ 69:

”الْعُرْفُ فِي الشَّرِيعَ لَهُ اعْتِباَرٌ ☆ لِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ“

..... اس پر شاہد ہے، اس لیے مدعا علیہ کی رقم واپس لینے کا حق دار نہیں ہے۔

رہی یہ بات! کہ میرے موکل (حامد پاشا) نے مصیبت کی گھٹی میں مدعا علیہ: ماجد و خالد کو تسلی نہیں دی، اور ان کے ساتھ اظہارِ ہم دردی و غم خواری کا معاملہ نہیں کیا، تو یہ مغض اخلاقی و احسانی چیز ہے، جس پر تعزیر نہیں کی جاسکتی! کیوں

کہ قانون کی دفعہ 82:

”تَرْكُ الْإِحْسَانِ لَا يَكُونُ إِسَاءَةً“..... اس پر شاہد ہے۔

وکیل استغاثہ: جناب حج صاحب!

وکیل دفاع نے اپنے موکل کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا:

قانون شرع کی دفعہ 69:

”الْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارٌ ☆ لِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ“

..... کے تحت میرا موکل (مدعی) بیانہ کی رقم واپس لینے کا حق دار ہیں ہے۔

عالیٰ جناب! زیر سماحت مقدمے سے اس دفعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں کہ عرف و رواج کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے، جب کہ وہ مخالف شرع نہ ہو، اور اس کی صراحت قوانینِ اسلام کے ماحر، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان الفاظ میں فرمائی ہے:

الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرِيعَةَ . (رسم المفتی: ص ۱۸۱)

نیز وکیل موصوف نے یہ بھی کہا کہ: اس کے موکل کے غیر اسلامی اخلاق کے اپنا نے پروہ مستحق تعریز ہیں، حالانکہ اس حقیقت سے انکار ہیں کیا جا سکتا کہ دینِ اسلام کا دار و مدار ہی ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہم دردی و غم خواری پر ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”الَّذِينُ النَّصِيحَةُ“ . (صحیح بخاری)

حج صاحب (مفتي خير محمد):

فریقین کے دلائل و جرح کی سماحت کے بعد؛ عدالت عالیہ، کتاب قانون کی دفعہ:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ . (سورۃ النساء: ۲۹)

اور آپ ﷺ کے فرمان: ”اَلَا! لَا يَحْلُّ مَالُ اَمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ“ . (سنن دارقطني: ۲۲/۳)

..... کے تحت، حامد پاشا کو، یہ حکم دیتی ہے کہ وہ خالد و ماجد کو، ان کے بیانہ کی رقم واپس کر دے، اور حکومت وقت کو یہ ہدایت دیتی ہے، کہ پارلیمنٹ میں ایسا بل پاس کرے، جس سے کار و بار کی اس شکل پر بریک لگ جائے، اور لوگ ناحق و باطل طریقے پر ایک دوسرے کے مال کھانے سے بچ جائیں، تاکہ اس طرح کے معاملات میں پھنس کر معاشرے کا چین و سکون تباہ و بر بادنہ ہو، کیوں کہ خرید و فروخت کی ایسی صورت؛ جس میں آدمی ٹوکن دے کر محض (Agreement) (to sell) معاہدہ بیع کرتا ہے، اور معاملہ کو ہستمی شکل دینے کے لیے طرفین کی رضامندی سے ایک مدت طے ہوتی ہے، بیع تام نہیں، بلکہ معاہدہ بیع ہے، جس کی وجہ سے وہ اس زمین کا مالک نہیں ہوتا ہے، الہذا آگے کسی اور کے ہاتھوں اُس کا اس زمین کو فروخت کرنا، شرعاً درست نہیں، لیکن عامۃ یہ ہوتا ہے کہ مدتِ مهلت کے درمیان، خریدار اس زمین کو اپنی ملک میں آنے سے پہلے، محض سودا پاؤتی کی بنیاد پر، کسی اور کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اور پھر وہ آگے کسی اور کے ہاتھ، اس طرح محض ٹوکن دے کر، خرید و فروخت کا یہ سلسلہ کئی لوگوں تک پہنچتا ہے، اور جب پہلے مرحلے میں طرفین کے مابین یہ معاملہ مکمل نہیں ہو پاتا، تو پھر آگے معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے سے دست و گریاں ہو جاتے ہیں، جھگڑے، فساد اور مقدمہ بازیوں کی نوبت آپہنچتی ہے، جیسا کہ آج کا یہ مقدمہ اس کی تازہ مثال ہے۔

**حاضرین!** خرید و فروخت؛ یقیناً انسانی ضروریات میں داخل ہے، مگر اس

کی تکمیل کے لیے شریعت نے ہمیں چند اصولوں کا مکلف و پابند کیا، اور وہ یہ ہیں:

(۱) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ  
وَذَلِكَ بِإِتْفَاقِ الْفُقَهَاءِ . ”معاملے کے وقت فروخت کی جانے والی چیز موجود ہو، لہذا غیر موجود چیز کی خرید و فروخت درست نہیں۔“

(۲) أَنْ يَكُونَ مَالًا ، فَمَا لَيْسَ بِمَالٍ لَيْسَ مَحَالًا لِلْمُبَادَلَةِ بِعِوَاضٍ .  
”فروخت کی جانے والی چیز شریعت کی نگاہ میں مالِ مستقوم ہو، لہذا حرام چیزوں کی بیع درست نہیں۔“

(۳) أَنْ يَكُونَ مَمْلُوًّا كَلَمْنَ يَلِي الْعَقْدَ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه  
لِحَدِيثِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ : ”لَا تَبْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ“ . (ترمذی)  
”آدمی جس چیز کو فروخت کر رہا ہے، وہ اس کا مالک ہو، لہذا جس چیز کا وہ مالک نہیں، اُس کی بیع بھی درست نہیں۔“

(۴) أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ غَيْرَ مَقْدُورِ  
الْتَّسْلِيمِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَمَلِ الشَّارِدِ ، وَلَا بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ،  
وَلَا السَّمَكِ فِي الْمَاءِ ، لِ ”نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ“ .  
”جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے، اس کے سپرد کرنے پر قادر ہو، لہذا بدک کر بھاگے ہوئے اونٹ، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، اور پانی میں موجود مچھلی کی بیع درست نہیں۔“ (صحیح مسلم)

(۵) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ ، فَبَيْعُ الْمَجْهُولِ جِهَالَةً

تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَبَيْعٍ شَاءٌ مِّنَ الْقَطِيعِ . (وَهَذَا شَرْطٌ صِحَّةٌ لَا شَرْطٌ اِنْعَاقَادٍ - أَيْ لَمْ يَبْطِلِ الْعَقْدُ بَلْ يَصِيرُ فَاسِدًا)

”جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے، وہ عاقدین میں سے ہر ایک کو معلوم ہو، لہذا ایسی مجھوں وغیر معلوم چیز کی بیع؛ جس کی جہالت ولا علمی جھگڑے فساد کا سبب بنے درست نہیں۔“ (الموسوعة الفقهية)

آج ہم مسلمانوں نے خرید و فروخت کے سلسلے میں، شریعت کے ان رہنمای اصولوں کو نظر انداز کر دیا، اور لین دین کی ایسی صورتوں کو بھی اپنالیا، جو شریعت کی نگاہ میں ناجائز و حرام ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکلی حلال کی نعمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ اعمال صالحہ میں ہماری رغبتیں دن بدن کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں، کیوں کہ اکلی حلال اور اعمال صالحہ میں چوپی دامن کا ساتھ ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنَّمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ﴾ . ”اے پغمبر! تم اور تمہاری امتیں نفسیں چیزیں کھاؤ کہ خدا کی نعمت ہے، اور کھا کر خدا کا شکر ادا کرو۔ کہ نیک کام کرو، میں تم سب کے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔“ (سورۃ المؤمنون: ۵۱)

اس آیت کی تفسیر میں حضرات علمائے کرام فرماتے ہیں کہ: اکلی حلال اور عمل صالح ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ”حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے“، جب غذا حلال ہوتی ہے، تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو، تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے

با وجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں، حدیث پاک میں ہے:

”أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ . وَقَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلَ السَّفَرَ ، أَشَعَّتْ أَغْبَرَ ، يَمْدُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبَّ ! يَا رَبَّ ! وَمَطْعُمَةُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبُسَةُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَّ بِالْحَرَامِ ، فَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .“  
کہ ”بعض لوگ لمبے سفر کرتے ہیں، غبار آلود رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور یا رب یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے، اور حرام ہی کی ان کو غذا میں ملتی ہیں، ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے!۔“ (صحیح مسلم: ۱/۳۲۶، معارف القرآن: ۲/۳۱۶)

### تو آئیے!

”جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا“ کی اس عظیم الشان مسجد، (مسجد میمنی) میں قائم، عدالت عالیہ، اور اسٹیچ پر جلوہ افروز، اس تحریکِ اسلامی کے روی رواں، میر کاروال؛ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی حفظہ اللہ در عاہ۔

آج کے اس ۲۶ روئیں عظیم الشان سالانہ اجلاس میں شریک، معزز و خصوصی مہمان، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل، ازہر ہنددار العلوم دیوبند کی مسند حدیث کی زینت، فقیہہ ملت؛ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم۔

اور ..... حبیب ملت، جانشین حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ؛ حضرت مولانا قاری حبیب صاحب باندوی دامت برکاتہم۔

امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش؛ حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم۔

اور دیگر بزرگانِ دین اور وارثینِ انبیاء کے سامنے، یہ **عہد** کریں ..... کہ ہم:

- (\*) زندگی کے ہر شعبے میں؛ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت و اخلاق میں مکمل اسلامی ہدایات و احکام کی پیروی کریں گے۔

- (\*) ہندوستان کی اس سر زمین پر ایسا معاشرہ قائم کریں گے، جو شراب، زنا، چوری، غیبت، لوت کھسوٹ، رشوٹ، سودا اور جواجیسے جرام سے پاک ہو، اور اس میں ملک و سماج کے ہر فرد کی آبرو و عزت، جان و مال محفوظ ہو۔

- (\*) ایک دوسرے کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کریں گے، ناجتن کسی کامال نہیں کھائیں گے۔

- (\*) لڑکیوں کو وراثت میں اُن کا شرعی حق دیں گے۔

- (\*) مدارس، مکاتب اور خانقاہوں کو مستحکم کریں گے۔

- (\*) اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم اور اس کے ساتھ دنیوی تعلیم سے بھی آرائستہ کریں گے۔

- (\*) دعوت و تبلیغ سے اپنارشتہ مضبوط بنائیں گے۔


- (\*) مسجدوں کو آباد کریں گے۔

Ⓐ اپنے خدا سے اپنے رشتہ کو استوار کریں گے۔

Ⓑ شرک و بدعت، غیر شرعی رسومات، اور فیشن پرستی سے اپنے آپ کو بچا کر، دوسروں کو بچانے کی فکر کریں گے۔

Ⓒ مرتے دم تک، اپنی ذات سے ملک و سماج کے کسی فرد کو، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔

**امے اللہ ! ہمیں اپنے اس عہد پر قائم رکھ! ہم سے راضی ہو جا، مرنے کے بعد ہمیں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرماء!**  
**آمین یا رب العالمین !**



وَمِنْ جُمُوعِ الْخَرْوَرِيَّاتِ خَمْسَةٌ : وَهُنَّ  
 بِفِطْنَةِ الْكَبِيرِ ، وَالنَّفْسِ ، وَالنَّسْلِ ،  
 وَالْمَالِ ، وَالْعَقْلِ ، وَقَدْ قَالُوا : إِنَّهَا  
 مُرَامَأَةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ - (الموافقات للشاطبي)

(۱۱)

مکالمہ پابت

شخصی و مذہبی آزادی

اود

معاملات کی صفائی

## کردار:

تمہیدگزار: عبدالعیم

پیشکار: محمد جاوید

﴿ مدعاً اول: مولانا زید راہی صاحب

مدعاً علیہ اول: سیاسی لیڈر (ایکس والی زیڈ)

وکیل استغاثہ اول: جناب گلزار صاحب

وکیل دفاع اول: گل عباس صاحب

حج صاحب: قاضی وجیہ الدین صاحب

﴿ مدعاً ثانی: عام شہری (خالد صاحب و دیگر شہریان)

مدعاً علیہ ثانی: اخبار ایڈیٹر (پی اے چھاجیر)

وکیل استغاثہ ثانی: جناب نشس الدین صاحب

وکیل دفاع ثانی: جناب قمر الدین صاحب

حج صاحب: قاضی وجیہ الدین صاحب

﴿ مدعاً ثالث: میت کا بیٹا (حامد صاحب)

مدعاً علیہ ثالث: میت کے دیگر بیٹے (شاہد، زاہد، راشد)

وکیل استغاثہ ثالث: جناب رکن الدین صاحب

وکیل دفاع ثالث: جناب فخر الدین صاحب

حج صاحب: قاضی وجیہ الدین صاحب

عدالتی ہدایات: محمد الیاس

# مقاصدِ شریعت کی دفعاتِ خمسہ

///

(۱) حفاظتِ دین

(۲) حفاظتِ نفس

(۳) حفاظتِ نسل

(۴) حفاظتِ مال

(۵) حفاظتِ عقل

# دفعاتِ ہند

///

A153 (۱) دفعہ

(مذہب، زبان و نسل کی بنیاد پر نفرت پھیلانا، [۲ سال قید])

294 (۲) دفعہ

(مذہب و مقاماتِ مذہب کی توہین، [۲ سال سزا])

A295 (۳) دفعہ

(کسی فرقے کے مذہب کی توہین یا اس مقدس مقام کی تجسس)

500 (۴) دفعہ

(ہتکِ عزت، [۲ سال قید])

## تمہید

**محترم حاضرین!** مذہب دنیا کا سب سے تو انا اور فطری جذبہ ہے، ہر الہامی مذہب، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو؛ امن، سلامتی، برداشت اور احترام انسانیت کا درس دیتا ہے، دینِ اسلام تو ہے، ہی سلامتی اور امن کا دوسرا نام، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملکِ عزیز کے آئین و دستور میں اُس کے ہر شہری کو شخصی و مذہبی آزادی حاصل ہے، اور اُسے نہ صرف اس بات کی تلقین و تاکید کی گئی ہے، کہ وہ دستورِ ہند کا پاس و لحاظ رکھے، بل کہ وہ اس کا پابندِ عہد ہے، لیکن کچھ عرصے سے بعض ملک دشمن عناصر ہماری صدیوں پرانی، باہمی محبت والفت، اخوت و بھائی چارگی اور اتفاق و اتحاد کو تباہ و بر باد کر کے، مذہبی، قومی اور گروہی بنیادوں پر، عصباتیوں اور نفرتوں کو ہوادے کر، اپنے قومی، ذاتی، سیاسی اور گروہی مقاصد کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وطن عزیز کی جمہوریت و سالمیت، اور اُس میں بسنے والوں کو حاصل حقوق پر، خطرات کے بادل مَنڈلا رہے ہیں، اسی طرح ہمارا مسلم معاشرہ اسلامی تعلیمات وہدایات سے روگردانی کی وجہ سے، آپسی اختلاف و انتشار اور تنازعات و جھگڑوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، انہی مسائل اور اُن کے حل پر مشتمل تین مقدمات، بعنوان؛ ”شخصی آزادی، مذہبی آزادی اور معاملات کی صفائی“، آج کی اس عدالت میں پیش ہوں گے۔

تو آئیے!..... دیکھیے!..... اور سنئے!..... کیا ہیں مسائل؟

اور کیسے ہوتا ہے اُن کا حل؟!



(تمہید کے بعد متصل نظم؛ ”حدود اللہ“ کا مندرجہ ذیل مصروفہ پیش کیا جائے!)

حدود اللہ، حدود اللہ..... حدود اللہ، حدود اللہ

حدود اللہ، حدود اللہ..... حدود اللہ، حدود اللہ

حدود اللہ کی حرمت، میرا دیں ہے میرا ایماں

حدود اللہ میرا قرآن، حدود اللہ میرا فرقان!

حدود اللہ، حدود اللہ..... حدود اللہ، حدود اللہ

حدود اللہ، حدود اللہ..... حدود اللہ، حدود اللہ



(پیش کار ”نظم“ کے فوراً بعد مندرجہ ذیل اعلان کرے گا!)

عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے!

## مقدمہ اولیٰ

### شخصی آزادی

**پیش کار:** مقدمہ نمبر ایک کے مدعی و مدعی علیہ، اپنے وکیل استغاثہ و دفاع کے ساتھ عدالتِ عالیہ میں حاضر ہوں !!

#### وکیل استغاثہ اول - مع مدعی اول :

جناب جج صاحب! میرا موکل (زید) ایک عالمِ دین ہے، کتاب و سنت کا قریب ہے، ایک عظیم دینی و عصری ادارے کا بانی، ناظم و مہتمم ہے، اس کی زندگی دینی، اصلاحی، سماجی و رفاهی خدمات سے عبارت ہے، اس نے پورے ملک میں تعلیمی و انسانی خدمات کے جال پھیلا رکھا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں اس کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور اسے قبولیتِ عامہ حاصل ہے، اس کی اسی مقبولیت و شہرت سے جل بھون کر علاقے کے، اس ممبر آف اسمبلی نے اُن کے خلاف ایک بڑے مجمع میں یہ بیان دیا، کہ زید اپنے کاموں میں مخلص نہیں، اس کے تعلقات ملک دشمن عناصر سے ہیں، اور اس کے قائم کردہ اداروں میں شدت پسندی و دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، موصوف کے اس بیان کو مبینہ یا نے بڑی سرخیوں میں شائع کیا، تفتیشی ایجنسیاں حرکت میں آگئیں، سب سے پہلے انہوں نے میرے موکل کو گرفتار کر کے، جیل بھیج دیا، اس کے بعد اس کے تعلیمی و رفاهی اداروں کے طلبہ و ملازم میں کو تفتیش کے

نام پر ہراساں کیا، غلط و بے بنیاد الزامات پر ہنگامی چارج شیٹ عدالت میں داخل کر کے، عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے دوست، ماہر قانون، وکیل؛ دلیش پانڈے صاحب کا، کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے، اس کیس کی انتہائی کامیاب پیروی کی، اور دس سال بعد ہمارے موکل؛ زید (عالم صاحب) کو ۱۵ اپریل ۲۰۱۶ء کو سیشن کورٹ نے باعزت بری کر دیا۔

**جناب جع جع صاحب!** میرے موکل کو گرچہ باعزت بری کر دیا گیا، لیکن دس سال کا ایک طویل عرصہ، جوانہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا پڑا، کیا ان کی زندگی کے اس قیمتی عرصے کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے؟ ان دس سالوں میں ان کی جو تعلیمی و رفاهی خدمات متاثر ہوئیں، کیا ان کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟

بلا وجہ ان کو جو ذہنی، جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں اُن کا مداراً ممکن ہے؟ اُن کی غیر موجودگی میں ان کے بیوی بچوں اور متعلقین کے جو حقوق تلف ہوئے، اُن کی تلافی ممکن ہے؟

جب تک ان کی بے گناہی اور برأت عدالت کے ذریعے ظاہر نہیں ہوئی، معاشرے میں اُن کی شبیہہ مشکوک رہی، جس کی وجہ سے ان کی عزت و شخصیت کو جو نقصان پہنچا، اُس کی بھرپائی ممکن ہے؟..... ظاہر ہے یہ ممکن نہیں!

لہذا میں نجح صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کہ مقاصد شرعیہ کی دفعہ ۲/ (حافظت نفس)، اور ملکی قانون کی دفعہ دوسو چورانوے (۲۹۳)، دفعہ چار سوننانوے

(۳۹۹) اور دفعہ پانچ سو (۵۰۰) کے تحت مدعیٰ علیہ کی رکنیتِ اسمبلی ختم کر دی جائے، اور انہیں ان کی اس غلط بیانی پر، جس کی وجہ سے میرے موکل کو اتنے سارے نقصانات پہنچے ہیں، کم از کم پانچ لاکھ (۵۰۰۰۰) روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔

### وکیل دفاع اول - مع مدعیٰ علیہ اول :

**جناب جع صاحب !**

میرے موکل ملک ہندوستان کی ریاست 'مہاراشٹر' کا ممبر اسمبلی ہے، ہمارا یہ ملک، جمہوری ملک ہے، اور یہاں کے ہر شہری کو آزادیِ ضمیر، اور آزادیِ اظہار رائے کا حق حاصل ہے، اس نے اپنے اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے، بعض شکوک و شبہات کی بنیاد پر مدعیٰ کے خلاف یہ بیان دیا تھا، اور یہ ضابطہ ہے کہ ہر صاحبِ حق کو اپنے حق کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے، اور اپنے حق کا استعمال جرم نہیں ہوتا، لہذا وکیل استغاثہ کے مطالبات ملکی دستور و قانون کے خلاف ہیں، اور میرے موکل کونہ تو اسمبلی کی رکنیت سے معطل کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس پر ہرجانہ عائد کیا جاسکتا ہے، مجھے آپ کی ذات سے پوری امید ہے، کہ آپ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، میرے موکل کو بے گناہ قرار دیں گے۔

### وکیل استغاثہ اول:

**جناب جع صاحب !** وکیل دفاع کا یہ کہنا، کہ اُن کے موکل کو دستورِ ہند کی دفعہ انس (۱۹) کے تحت آزادیِ ضمیر اور آزادیِ اظہار رائے کا حق حاصل

ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے حق کو اس طرح استعمال کریں، جس سے کسی دوسری شخصیت کی عزت و آبرودا غدار ہو، اور اُسے سنگین مسائل سے دوچار ہونا پڑے، اس لیے کہ شریعتِ اسلامی کا مزاج ہے: ”لُكْلٌ صَاحِبٌ حَقٌّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ إِلَّا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ“ – کہ ہر صاحبِ حق کو، اپنے حق کی وصولی کا اختیار ہے، مگر بشرطِ سلامتی، اس لیے وکیلِ دفاع کا یہ استدلال بالکل غلط اور بے جا ہے۔

### جمع صاحب :

طرفین کے دلائل کی سماعت کے بعد، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مدعیٰ علیہ نے واقعہ مدعیٰ پر ظلم و زیادتی کی، اس پر بے بنیاد الزامات لگا کر اسے جیل بھجوایا، جس کے نتیجے میں اس کی عمرِ عزیز کا ایک بڑا حصہ یوں ہی بر باد ہو گیا، اس کی ذہنی و جسمانی تکلیفوں کا سبب بنا، سماج و معاشرہ، اعزہ و اقارب اور اس کے متعلقین میں اس کی عزت و آبرو کو مجروح کیا، اور اس کے جیل میں پڑے رہنے کی وجہ سے ایک طویل مدت تک ان تمام لوگوں کے حقوق متاثر ہوئے، جو اس کی ذات سے متعلق تھے۔ اس لیے عدالت؛ تعزیریاً، و بطورِ سزا، مدعیٰ علیہ کی اسمبلی کی رکنیت ختم کرتی ہے، اور مقاصدِ شرعیہ کی دفعہ ۲/ (حافظتِ نفس)، اور تعزیریاتِ ہند کی دفعہ چار سو نانوے (۳۹۹)، اور دفعہ پانچ سو (۵۰۰) کے تحت اس پر پانچ لاکھ (۵۰۰۰۰) کا ہر جانہ واجب کرتی ہے۔

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

## مقدمہ ثانیہ

### مذہبی آزادی

**پیش کار:** مقدمہ نمبر دو کے مدعی و مدعی علیہ، اپنے وکیل استغاثہ و دفاع کے ساتھ عدالت عالیہ میں حاضر ہوں!

#### وکیل استغاثہ ثانی - مع مدعی ثانی :

**جناب جج صاحب!** میرے موکل؛ خالد صاحب ایک مسلمان ہیں، مسلمان خدائی کتاب؛ قرآن کریم اور اسلام کے آخری پیغمبر، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نہ صرف ایمان رکھتا ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب و سنت اور پیغمبر علیہ السلام کی عزیز ذات، اس کے نزدیک اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ اپنی اس مذہبی کتاب اور پیغمبر کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور مدعی علیہ؛ پی اے چھاجیڑ (PA CHAJED) نے اپنے اخبار؛ **ڈلیٹیسٹ نیوز (The Latest News)** کے اداریے میں خدائی کتاب، اور پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، مذہب اسلام جو امن و آشتی کا مذہب ہے، اُسے شدت پسندی و دہشت گردی کا مذہب لکھا، اور مسلمانوں کے خلاف نازیبا کلمات لکھ کر، نہ صرف اُن کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، بلکہ دستورِ ہند کے باب نمبر سات (۷) کی دفعہ اٹھارہ (۱۸) کی دھجیاں بکھیر دی، اور اپنے اداریے میں ایسی زہرا فشنی کی، جس سے بقاۓ باہمی اور سماجی ہم آہنگی پر

متغیر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

لہذا میں عدالتِ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں، کہ مقاصدِ شرعیہ کی دفعہ /۱ (حافظتِ دین) کے تحت، اُس کے اخبار کی اشاعت بند کر دی جائے، اس کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا جائے، اور تعزیراتِ ہند کی دفعہ ایک سو ترپن (۱۵۳)، دوسو پچانوے (۲۹۵) اور دفعہ چار سونانوے (۳۹۹) کے تحت، تین سال کی قید اور جرم انہ عائد کیا جائے، تاکہ دوسرا کوئی ایڈیٹر اور صحافی اس طرح کی جرأت نہ کر سکے۔

### وکیل دفاع ثانی - مع مدعیٰ علیہ ثانی :

**محترم جع جا صاحب !** وکیل استغاثہ کی ایل ایل بی (LLB) کی ڈگری منسوخ کر دیجیے، انہیں دوبارہ وکالت پڑھنے کا حکم کیجیے، اس لیے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اس آزاد و جمہوری ملک میں اس کے ہر شہری کو، دستورِ ہند کی دفعہ اُنیس (۱۹) کے تحت، تقریر، تحریر اور اظہارِ رائے کی آزادی حاصل ہے، اور ہر حق دار اپنے حق کو استعمال کر سکتا ہے، اور اپنے حق کے استعمال پر اُسے مجرم گردانا خود ایک جرم ہے، میرے موکل نے بھی، اپنے اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے، اسلام پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جواباتیں اس کے ضمیر میں تھیں، انہیں نوکِ قلم پر لا کر صفحاتِ اخبار پر بکھیر دیا، اسے اس کے اس فعل پر مجرم قرار دینا، ایسا ہی ہو گا جیسے کسی شادی شدہ فرد کو اپنی بیگم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے پر اس لیے مجرم قرار دینا، کہ اس کی وجہ سے غیر شادی شدہ افراد کے دل دکھ جاتے ہیں، اور انہیں اپنی محرومیٰ قسمت کا صدمہ پہنچتا ہے، اور ظاہر ہے؛ یہ بات انتہائی نامعقول ہے۔

الہذا میں نجح صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے موکل؛ پی اے چھاجیر (P.A. CHAJED) کو، ان پر لگے الزامات سے بری کر دیں، اور مدعی نے چوں کہ خوامنواہ میرے موکل کو عدالت کے چکر کٹوا کر، ان کا وقت اور مال ضائع کیا، انہیں ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائی، اس لیے ملکی قانون کی دفعہ پانچ سو (۵۰۰) کے تحت، اس پر رضمان و تاوان بھی لازم کیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص پیشہ صحافت سے جڑے افراد پر، اس طرح کا کوئی مقدمہ دائرہ کر سکے، اور حقِ آزادی رائے کا تحفظ ہو سکے۔

### **حج صاحب :**

فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت؛ مقاصد شرعیہ کی دفعہ ۱۲ (حفظتِ نفس)، دفعہ ۲۳ (حفظتِ مال)، دفعہ ۵۵ (حفظتِ عقل) کے تحت ملزم پی اے چھاجیر (P.A. CHAJED) کے اخبار؛ ڈلیٹیسٹ نیوز (The Latest News) کی اشاعت پر، تین سال کی پابندی عائد کرتی ہے، اور اس مدت تک اس کے رجسٹریشن کو منسوخ کرتی ہے، اور ملکی قانون آئی پی سی (IPC) کی دفعہ ایک سوترا پن (۱۵۳)، دفعہ دوسو پچانوے (۲۹۵) اور دفعہ چار سونانوے (۳۹۹) کے تحت، مجرم قرار دیتے ہوئے، اسے تین سال کی قید اور پچاس ہزار (۵۰۰۰) روپے جرمانہ کی سزا سناتی ہے۔

OoOoOoOoOoO

## مقدمہ ثالثہ

### معاملات کی صفائی

**پیش کار:** مقدمہ نمبر تین کے مدعاً و مدعیٰ علیہ اپنے وکیل استغاثہ و دفاع کے ساتھ عدالت عالیہ میں حاضر ہوں!

#### وکیل استغاثہ ثالث - مع مدعیٰ ثالث :

جناب جع صاحب! میرے موکل حامد اور اس کے تمام بھائی اپنے والد کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ خاندان متوسط آمدی وائل طبقہ میں ہے، اللہ رب العزت نے اس خاندان پر کرم فرمایا، اور اس کے ایک چشم و چراغ میرے موکل؛ حامد میاں کو آئی پی ایس (IPS) اکٹام میں کامیابی عطا کی، وہ کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے، اچھی خاصی تن خواہ پانے لگ گئے، جب والد صاحب نے اپنے پرانے مکان کو منہدم کر کے، ازسر نواس کی تعمیر کا آغاز کیا، تو بیٹے حامد نے ایک موٹی رقم والد مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور ایک شاندار مکان بن کر تیار ہو گیا، جس میں تمام بھائی اپنی فیملیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے۔

چند سالوں بعد والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو والدہ نے اپنی محبت، شفقت اور حسنِ تدبیر کے ساتھ اپنے تمام بچوں کو سمیٹے رکھا، اور تا حیات خاندان کو منتشر نہیں ہونے دیا، آخر کچھ سالوں کے بعد وہ بھی اس دنیا کو الوداع کہے گئیں، اور ان کے بعد تقسیمِ مکان کو لے کر بیٹوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، میرے

موکل؛ حامد کا کہنا ہے کہ اس مکان میں میرا حصہ زیادہ ہے، کیوں کہ میں نے والد صاحب کو اس مکان کی تعمیر میں ایک بڑی رقم دی تھی، اور دیگر اولاد یہ کہتی ہے کہ ہم نے والدین اور ان کے کاروبار کو سنپھالا، کاروبار کو ترقی دی، والدین کی خدمت کی، اگر تمہیں اس مکان میں زیادہ حصہ چاہیے، تو پھر والد کے کاروبار میں تمہیں اپنے حصے سے دست بردار ہونا پڑے گا، کیوں کہ کاروبار کو با م عروج پر ہم نے پہنچایا، آپ تو آرام سے گورنمنٹ کی اے سی آفس میں بیٹھے حکومت کرتے رہے۔

**جناب جع صاحب!** میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کہ آپ میرے موکل؛ حامد صاحب کو، ان کے والد کے کاروبار، اور مکان میں ان کا واجب حصہ دلا کر انصاف فرمائیں!

### وکیل دفاع ثالث - مع مدعی علیہ ثالث :

**جناب جع صاحب!** میرے موکل (شاہد، زاہد، راشد) ایک جوانست فیملی کے افراد ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جوانست فیملی میں تمام آمدنی اور اخراجات مشترک ہوتے ہیں، تمام افراد باپ کے مکان اور کاروبار میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کسی کے کم اور کسی کے زیادہ کمانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، باپ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی تمام جائیداد، اُس کے وارثین کے مابین حص شرعیہ کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، تو پھر مدعا کا اپنے حصہ شرعی سے زیادہ مانگنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اس کا دعویٰ شرعاً و عقلائی صحیح و درست نہیں ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ آں جناب، عقل و شرع کے تقاضوں کے

مطابق، مدعی کے دعوے کو خارج کرتے ہوئے، تمام وارثوں کے درمیان ان کے والد کی جائیداد، حسب حصہ شرعیہ برابر تقسیم فرمائیں گے!

### حج صاحب :

وکیل استیغاثہ اور وکیل دفاع؛ دونوں کی بحث کو سن کر، عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ مرحوم زید اور ان کی تمام اولاد ایک جوائنٹ فیملی کے طور پر رہ رہے تھے، تمام کار و بار اور آمدنیاں مشترک تھیں، اور تمام اولاد مرحوم کے زیر کفالت تھیں، لہذا حامد کا اپنے والد کے مکان میں زائد حصہ مانگنا شرعاً و عقلاءً درست نہیں، رہی یہ بات کہ حامد نے اپنی تن خواہ میں سے ایک بڑی رقم مکان کی تعمیر کے لیے دی تھی، اس لیے اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ حامد نے اپنے والد کو یہ رقم جس وقت پیش کی تھی، اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی تھی، کہ یہ رقم وہ بطور قرض دے رہا ہے، یا بطور شرکت؟ اگر یہ وضاحت ہوتی کہ وہ یہ رقم بطور قرض دے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اتنی رقم کی واپسی کا حق دار ہوتا، جیسا کہ ”رد المحتار: ۵/۶۷“ کی عبارت：“إِنَّ الْدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا” سے ثابت ہوتا ہے۔

اور اگر یہ وضاحت ہوتی، کہ وہ یہ رقم بطور شرکت دے رہا ہے، تو اس صورت میں مکان کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس کے حصے کی مالیت میں بھی اضافہ ہوتا، اور وہ اس کا حق دار ہوتا، جیسا کہ ”فتاویٰ عالمگیری: ۳۰۲/۲“ کی عبارت:

”أَمَّا الشُّرُكَةُ بِالْمَالِ فَهِيَ أُنْ يَشْتَرِكَ إِثْنَانِ فِي رَأْسِ مَالٍ فَيَقُولُانِ :

اُشتر کنا فِیہ عَلیٰ أَنْ نَسْتَرِی وَنَبِیعَ مَعًا أَوْ شَتِی أَوْ أَطْلَقَا عَلیٰ أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَنَا عَلیٰ شَرْطٍ كَذَا ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ نَعَمْ . كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ” . سے واضح ہوتا ہے۔

لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ظاہر یہی ہے کہ اس نے یہ رقم اپنے والد کو بطور ہدیہ و تعاون دی تھی، اور فقہہ کا قاعدہ ہے: ”الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ سَاعَدَهُ الظَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ”۔ (أصول الگرجی، مادہ: ۳) – لہذا ظاہر کو بنیاد بنا کر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پورا مکان والد ہی کی ملک ہے، اور اس میں تمام اولاد اپنے حصی شرعیہ کے مطابق حق دار ہے، اور حامد کا اپنے حصے سے زائد کا مطالبه شرعاً و عقلتاً درست نہیں ہے۔

0o0o0o0o0o0



## عدالتی ہدایات

**محترم حاضرین!** مقدمات اور ان کے فیصلوں کو سننے کے بعد یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، کہ اس طرح کے جھگڑے کیوں پیش آتے ہیں؟

**﴿مقدمہ نمبر ایک﴾:** اس لیے پیش آیا کہ مدعی علیہ نے محض شکوک و شبہات اور بہتان کی بنیاد پر مدعی کے خلاف بیان دیا، جب کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب تک کہ کسی امر کی پوری حقیقت اور اس کی سچائیت سے واقفیت نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا چاہیے، خاص طور پر جب اُس امر و خبر سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے جھگڑے اور واقعات غلط بیانی، غلط اطلاع اور غلط چغلی کھانے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، اور جس قوم و فرد کے متعلق غلط بیانی و غلط اطلاع سے کام لیا جاتا ہے، حقیقتِ حال کے واضح ہو جانے تک وہ بڑے نقصانوں اور تکلیفوں سے دوچار ہو جاتا ہے، پھر حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد، اپنی غلط بیانی پر شرمندگی و پیشمانی ہوتی ہے، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اس شرمندگی و پیشمانی پر یہ مثل صادق آتی ہے:

”چوں تریاق از عراق آؤ رده شود مار گز یدہ مُر ده شود“

(عراق سے تریاق آنے تک سانپ کا شخص کی جان چلی جاتی ہے)

(مستفاد از تصحیح القرآن و تفسیر محمود)

اسی لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾

**فَتَبَيَّنُوا**۔ ”اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔“ (سورة الحجرات: ۶)

اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”كَفِي بِالْمَرءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ“۔ ”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دے۔“ (صحیح مسلم: حدیث: ۷)

﴿مقدمہ نمبر دو﴾؛ اس لیے پیش آیا، کہ مدعی علیہ نے دستور ہند کی دفعہ ۲۵/- جس کے تحت ہر ہندوستانی کو آزادی، ضمیر و مذهب حاصل ہے۔ کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور آئی پی سی (IPC) کی دفعہ ۲۹۵ رکی خلاف ورزی کی، حالاں کہ ہم سب کے ہندوستانی ہونے کا تقاضا یہ ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے مذهب اور اُن کے پیش واوں کا احترام کریں، تقریر و تحریر میں ایسی زبان استعمال نہ کریں، جس سے امنِ عامہ پر زد پڑتی ہو، ہماری قدیم گنگا جمنی تہذیب متاثر ہوتی ہو، فرقہ واریت اور عدمِ رواداری کو ہوا ملتی ہو، ملک کی سالمیت و اتحاد کو خطرات لاحق ہوتے ہوں، اور ملک دشمن عناصر کو تقویت پہنچتی ہو، اس لیے کہ باہمی اخوت و بھائی چارگی، اتحاد و اتفاق اور امن و امان کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی ملک ترقی کی منزلیں طنہیں کر سکتا۔

خود اسلام نے بھی مسلمانوں کو، دیگر مذاہب کے احترام اور اُن کے ماننے والوں کے ساتھ، رواداری کا حکم دیا ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَسْبُّهُوا الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْسُبُوهُا اللَّهَ عَذْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾۔

”(مسلمانو! جن (جھوٹے معبودوں) کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، تم ان کو بُرانہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو بُرا کہنے لگیں۔“ (سورہ انعام: ۱۰۸)

☆ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے، کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے معبودوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیا کریں، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کافر لوگ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا، تو اس کا سبب تم بنو گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کا سبب بننا بھی ناجائز ہے۔

اس آیت سے فقہائے کرام نے یہ اصول نکالا ہے، کہ اگر کوئی کام بذاتِ خود تو جائز یا مستحب ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ جائز یا مستحب کام چھوڑ دینا چاہیے، تاہم اس اصول کے تحت کوئی ایسا کام چھوڑ ناجائز نہیں ہے، جو فرض یا واجب ہو۔  
(توضیح القرآن: ص/ ۳۰۲)

**﴿۷﴾ مقدمہ نمبر تین:** اس لیے پیش آیا، کہ ہم مسلمانوں نے اپنے دین کی ایک انتہائی زریں تعلیم:

”تَعَاشِرُوا كَالإِخْوَانِ وَتَعَامِلُوا كَالأَجَانِبِ“.

”آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، لیکن لین دین کے معاملات اجنیوں کی طرح کرو۔“ ..... کو نظر انداز کر دیا۔

اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ روزِ مرہ کی زندگی میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، کہ آپس میں ایثار، مرقت، رداداری، تخل اور اپنا بیت کا مظاہر ہو، لیکن جب روپے پسے کے لین دین، جائداد کے معاملات اور شرکت و حصہ داری کا مسئلہ آجائے، تو اسے اس طرح انجام دے، جیسے دو جنہی شخص انعام دیا کرتے ہیں، یعنی معاملے کی ہر بات صاف ہو، اُس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، ورنہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، کہ معاملات کی ڈرالجھ کرتی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے، کہ منصفانہ تصفیہ کے لیے اُس کا سراپکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہر شخص واقعات کو اپنے مفاد کی عینک سے دیکھتا ہے، اور مصلحت کا کوئی ایسا فارمولہ وضع کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، جو تمام متعلقہ فریقوں کے لیے قابل قبول ہو، اس لیے جب بھی کسی سے، کوئی بھی معاملہ کیا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے، کہ اُس کی ہر ہر بات صاف ہو، اور اُس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ وفقنا اللہ لما نحب و نرضي !

ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم! وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم!

لَمَنْ يَأْرِبُ (العالَمُونَ)

## پیش کار:

آج کی یہ عدالتی نشست برخاست ہوتی ہے!



## یادداشت

# مطبوعات دارالافتاء، جامعہ اکل کوا

